

۱۵۰ - ۱۱ - ۲۰۰۴

لا اله الا الله محمد رسول الله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امر الناس على وجهين وما له ابواب ولو كنت مستخدما لاتي بالكل خذوا ولدت اخوة الاسلام

بين قتيبي استطابت وقراني

مسمى به

جمال الصلوة

فكلام الشريعة

من تاليف حاجي حزين شريفين زاو هما الله شرفا و تعظيما محمد محمد
عبد الصمد عفا عنه الاحد سابق نايب ناظم رياست پشاور
محمد خلف الرشيد شيخ عبد الاحد صاحب مرحوم و مغفور عليه


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مولاه فعلى مولاه

بسطع فاقونى بلانى مايرمى بطبع شير

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق و رفيق يعنى و الف خلة عثمان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امر الناس على وجهين وما له ابواب ولو كنت مستخدما لاتي بالكل خذوا ولدت اخوة الاسلام





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بعد خدا و نعت رسول کریم علیہ و علی آلہ و اصحابہ الصلوٰۃ والسلام کے مؤمنین مسلمین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ زمانہ ایسا آگیا ہے کہ لوگوں کو دینیات کی طرف توجہ و رغبت بہت ہی کم ہے اللہ رسول کی فرمان برداری نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ تلاوت قرآن شریف وغیرہ فرائض و واجبات و سنن و نوافل کے ادا کرنے میں لوگ اکثر سستی اور کاہلی کرتے ہیں علمائے دین کی صحبت سے نفرت مسجدوں میں جانے سے عار مجالس و عظ و نصیحت میں حاضر ہونے سے شرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ذوی القربی کے حقوق ادا نہیں کرتے مساکین و فقراء سے آنکھ چراتے ہیں بندگان خدا پر رحم نہیں کرتے بدگمانی حسب جوئی عنیت بغض کینہ اکثر شیوہ دنیا کے نشہ میں ایسے مست و مغرور و سرشار ہو رہے ہیں کہ مرنا یاد ہی نہیں ہے اور اس اللہ واحد جبار قہار کا خوف ہی دسے اٹھا دیا اور اس کے اس حکم کو **اِنَّمَا تَكُونُونَ اَبْدَانًا مَّوْتًا وَا** لوگ نہ صرف بڑے کٹھن و کٹھن ہیں بلکہ یعنی برابر جہان کہیں ہو تم پالیوگی تکوین موت اگرچہ ہو تم بیچ برون بلند کے۔ بالکل بھولے ہوئے ہیں اس پر خیال نہیں کہ اللہ جل شانہ اپنی کتاب مبارک میں دنیا کی کیسی مذمت فرماتا ہے۔ **اِنَّ الْمَثَلَ لَلْاٰنِ زَمَانًا تَارِي**

کو بڑے لقب سے بنامی ہے کیونکہ فریق کے ساتھ یاد کرنا بعد وصف ایمان کے -
 اس عاصی پر معاصی کو جو المدخل جلالہ عم نوالہ نے اپنے فضل عمیم سے بظہیر اپنے
 حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام حج و زیاراتِ حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً
 مشرف فرمایا تو سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ میں جو دین متین کی
 ترقی اور مؤمنین کی الفت اور اتفاقِ باہمی اور انوارِ تجلیاتِ روز افزون کی جو جو کیفیت
 یہی قلم کی کیا تاب و طاقت ہے کہ اسکا ایک شتمہ ہی لکھ سکے۔ سچ تو یوں ہے کہ
 حرمِ محترم کعبہ و حرمِ محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچون وقت ہر چہار مصلون
 حنفی شافعی مالکی حنبلی پر نماز کا وہ اہتمام اور لاکھوں نمازیوں کا وہ ہجوم ہوتا ہے
 اور وہ کیفیات حضوری قلب و خشوع و خضوع حاصل ہوتے ہیں کہ اسکا حظ و لطف
 وہی خوب جانتا ہے جسکو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کمالِ رحمت سے حضوری و
 زیارتِ حرمین شریفین سے مشرف فرمایا ہو۔ ہر نماز کے وقت متعدد مؤذنون اور
 تکبیروں کا اونچی اونچی میناروں اور تکبیر گاہوں پر چڑھ کر کمالِ خوش الحانی اور ذوقِ
 قلبی سے اذانین دینا اور باہم آوازین بلا کر بلندی و خوش الحانی سے تکبیرین کہنا
 اور عرب العریاء قاری اماموں کا نہایت عمدہ قراءت پڑھنا خصوصاً نماز جمعہ کا ایک بہاری
 اہتمام منبرِ مطہر و محرابِ مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت اور منبر پر خطیب کا
 واعظانہ و ناصحانہ شان کے ساتھ خطبہ پڑھنا اس حکمِ احکامین کے دربار کی عجیب
 شان دکھلاتا ہے خصوصاً موسم حج میں لکھو کہہ ہا حاجیوں کا بیت اللہ کا طواف کرنا
 اور فریادیوں کی طرح کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اور پردوں کو چمٹ کر کمالِ درد و رقت
 کے ساتھ دعائیں پڑھنا اور صفا و مروہ میں سعی کرنا مخصوص مسجد آدم علیہ اسلام میں
 ہذا ظہر خطبہ اور نماز ظہر و عصر باجماعت ایک اذان اور دو تکبیر سے پڑھا جانا اور قافلی

صاحب کاجبل عرفات کے اوپر ننگے سر اوٹھنی پر سوار محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 آگے رقت و دروس سے خطبہ پڑھتا اور گروا گروا ساری پہاڑ پر اور میدان عرفات میں جمع ہو کر لاکھوں
 حاجیوں کا گداسے لیکر باد شدہ تک یکسان اور نہایت عاجزانہ ہیئت کے ساتھ احرام باندھ
 ہوئے ننگے سر خطبہ سننا اور فریاد بونگی طرح اپنے مالک پاک پروردگار تبارک و تعالیٰ کے حضور
 میں آوازہ لبتیک کا بلند کرنا اور صین خوف ورجا کی حالت میں کمال عجز و زاری اور رقت قلب
 و خضوع و خشوع سے آنسو بہاتے ہوئے مناجات و توبہ و استغفار کرنا اور اس وقت انوار
 تجلیات الہی و آثار رحمت و قبولیت کا ظاہر ہونا اور عین باہین عصر و مغرب ابر رحمت کا چہا جانا
 اور رحمت کی بوندین برسنا ایک عجیب شان معبودی اور صفت خفاری و کریمی و رحیمی اس مالک
 الملک کا ظہور اور گویا میدان حشر کا نمونہ ہے پہر خطبہ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی تو چنانہ سلطان
 سے سلامی کا ہونا اور فوج سلطانی و محل شامی و مصری کا عجب انداز و ہتھام اور شریف مکہ معظمہ
 و نیز وہاں کے بادشاہ کی سواری کا دہوم دہام اور برابر توہین چلاتے اور تہبازی چوڑتے ہو
 اور مومنین کا کمال خوشی سے باہم مبارک سلامت کہتے ہو مزدلفہ میں آنا اور عند العشاء وہاں
 مغرب عشا کا کہنے پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لطف عبادت اس معبود و وحدہ لا شریک و کمال
 ہے اور مزدلفہ سے منامین آنا اور وہاں لکھو کہا جانور و نکی قربانی ہونا اور شیطانوں کے کنکریاں
 مارنا کیا اس پروردگار خالق بیچون کی جباری و قہاری کی صفت کا ظہور ہے اللہ اللہ وہاں کی
 عبادات و انوار تجلیات کی جلالت و اقیامت جی سے نہیں جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ حرم شریف
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلوات خوانی اور وہ صلوات خوانی کا حرم مبارک کے میناروں پر چڑھ کر
 کمال خوش الحانی اور جوش محبت سے ایک نہایت پراثر و پردہ آواز سے صلوات پڑھتا اور قہر پرورد
 روضہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ اور اسپر وہ نور علی نور کا عالم اور اس وقت رقت
 قلب کا ہونا اور لاکھوں میں ایک نور کا عالم نظر آنا اور آنسو و نکی چہرے میں لگنا ایک عجیب شان معبودی

دکھلاتا ہے قبۃ پر نور کی نورانیت اور گنبد مبارک کی سبزی وہ دیکھ کر کہنچتی ہے کہ جذب مقناطیسی کیا حقیقت ہے صفای قلب و تزکیہ نفس کے واسطے کسیر اعظم ہے مسجد نبویؐ میں باہین ممبر طہر و روضہ منورہ کے صد ہا قرآن مجید بے بہا مطلقاً قلمی و چہا پہ کا عمدہ عمدہ رحلون پر مزمین ہو کر پڑھا جانا اور دلائل الخیرات و ورود و اوراد خوانی کی کثرت اور قرآن خوانوں اور درود خوانوں کا محبت و درگاہت ملاوٹ میں خشوع و خضوع اور آنسو بہانا اور ماہین اوقات نماز کے تاخستام نماز عشا و عوط کا ہونا اور روضہ منورہ کے سامنے اور جا بجا حرم شریف میں مجالس مولود شریف کا ہونا اور اہل مجلس کا کمال ادب اور عین محبت سے مولد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے ساتھ بے اختیار تعظیم اظہار ہو کر رو ڈھپنا کیا جلوہ محمدی دکھلاتا ہے ہزاروں زوار کا روضہ مقدسہ کے ہر طرف صلوٰۃ و سلام پڑھنا اور کمال ادب محبت سے جی جان کے تیار ہونا اور خود بخود ایک نہایت پائش محبت و درود کا ہر دل میں پیدا ہونا اور آثار رحمت اور خشوع و خضوع و وقت و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھنا اور دنیاوی خیالات اور وسوسوں سے دل کا پاک ہو جانا اور ایک محویت نورانیت کا عالم اس حیات انبی کا کہلا مچھڑا اور اس حمۃ للعالمین کی کمال شفقت اور رحمت کا اس بہت عاصی پر کافی ثبوت ہے

محمد

ایک در ذات خوش منقری بصفات کمال محمدی پس زو ماندہ ام بچاہ بی یا حبیب اللہ خذ بیدی ما بجزی سواک مستندی	رتبہ قربت از ہمہ رفیع ہ مستفیض از تو انبیا جمع نام پاکت بدرد ہا نفع کن رحما لذاتی و شفیع یا شفیع الوری الی الصمدی
منکہ ہستم قرین بد عملی از تہ کاری خفی و جلی برورت آدم بخشہ لی اعتصامی ہوا جابک لیس یا سیدی الی الاحدی	ای مظفر جنگ بدر حنین شکر آدم و ملک صغین ہست ذات تو شافع الکونین خیر عروا و الیس الدارین لعلیل ذلیل معتدی
ای رسول خدائے تعالیٰ اب خیر النساء حسنین آروں از زبان و زبانتین صلواتی علیک فی الملون کان یجاوذ عن العدمی	

بیداران اند بان خودم زوئل خسته و سبدم سزا می بر ایم من این نواد هر و علی اهل بیتہ طہراً و علی له الا لابتک	آنکہ بود از خدا شمع در عبادت حق بجان خضع گویم ازوئل برای مجمع و علی الصبح کلہم جمع ہم بخو لہدی الی الرشک
عن ثوب اللہ قد صانوا فی عباداتہ لما خانوا یا کملت فشر وہ تارانو و علی التابعین ہم كانوا لخیر السداد کالتو تالک	ای ہمہلم بیت دین پر و می تمامی صحابہ کبر از برای خدا و تمیز استعینوا العاجز و مضطر شمر و اذ یلکم الی المددی

سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں نہو اللہ جل جلالہ عم نوالہ خود اس سرور عالم کی شان میں فرما ہر
و بالحق منین رؤف رحیم و ابی شبہ مدفن مطہر اس شفیع المذنبین رسول رب العالمین صلی اللہ
علیہ وآلہ و صحابہ کی شان عرش سے بڑھ کر ہے
یا خیر من ذنبت الذر اب اعظمہ فطاب طریق القاع و لاکم نفسی فدا و بقرانت سیکہ فیہ العفا و فیہ الحجی و الکر

قصیدہ

ان نلت یا ریح الصبا یوں ما الی ارض من انہ نوا لہدک من کفہ بحر الہم لست بربیع مفرح ابل قریای کلہم یویا و لیلاد اثما وارزق کذابی الکر البادنا مفرحہ من سیف ہر المصطفی ادراک لنا یوں الحزن بن فضلا و جوا واکم	بلغ سلامی بوضہ فیہا النبی المواتر قرآنہ برہاننا نسخ الادیان مضیت فی القبر اشفع یا شافع بالصا والنون و قلم یا مصطفی یا مجتبی ارحم علی عصیاننا طوبی لاهل البلادہ فیہا الرسول المحترم یا رحمة للعالمین رک لزیین العابدین	من چہ شمس الضحیٰ من خذہ بدل الدجی اذ جاءنا احکامہ کل الصفح صال العدم یا لیتنی کنت کمن اتبع نبیا عالماء عجبتا اعمالنا اطعنا و ذنبا و الظلم قم یا شفیع المذنبین هل انت خیر المسلمین مقہو را ید الظالمین بالموکب و المرزہم
---	--	--

رباعی

یا رسول اللہ انظر حالنا
اننی فی بحر ہم متفرق
یا نبی اللہ اسمع وتالنا
خذ یدی سہل لنا اشکالنا

سبحان اللہ مدینہ عرش کا ٹیگہ ہے شعر

نہ دیکھا ہوزمین پر جس نے فردوس وہ جا کر دیکھ لے کوٹے محمدؐ

مدینہ منورہ کے باشندے بڑے ہی خوش نصیب اور مبارک لوگ ہیں اور اسپر کیسے
خلیق نرم دل حلیم الطبع رحیم مزاج ہیں کہ خلق محمدیؐ انکی طینت میں سے عجب متواضع
و با مروت و با وفا اور سچے امانت دار اور متوکل بخدا ظاہر و باطن یکساں پروانہ وار شقائق
جان نثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم گویا خیر و برکت کی تصویر ہیں انکو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے جان و مال و اولاد سے بہتر اور بڑھ کر ہے خدا
سب مومنوں کو انکی پیروی نصیب کرے انہیں بغض و کینہ و غصہ و تکبر نام کو نہیں
اگر چنانا گہین غصہ بھی آگیا اور کوئی کسی سے بول بھی پڑا تو وہ انکی تریزبانی بھی عبادت
سے خالی نہیں اسحالت میں بھی بجائے زجر و توبیخ و بیہودہ برا بھلا کہنے کے انکی زبان
سے برابر یہ کلمات نکلتے ہیں **كَاشَاءَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ** اور
کمال غصہ کی یہ کلام ہے **لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْإِبْلِيسِ** سبحان اللہ کیسے پاک لوگ اور کیا پاک عقائد
ہے۔ وہ بدوی جو زواروں کو اپنے اونٹوں پر مدینہ طیبہ میں پہنچاتے ہیں سبحان اللہ
عجیب لوگ ہیں اونٹوں کو لادتے کہوتے جتے جب وہ اکثر درود اور قصائد نعتیہ پڑھتے ہیں
اور آپس میں بات چیت کرتے ہوئے بجائے قسم بچیات محمد و بچیات ابنی کہتے ہیں۔
کیسے پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ جو وقت وہ اونٹ کی مہار کا ندھے پر رکھے ہو
مدینہ طیبہ روضہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ کی طرف کو پہنچے لیے جاتے
ہیں اسوقت گویا رگ جان ساتھ ہی پہنچتی ہے اور یہ کیفیت معلوم ہوتی ہے گویا یہ مبارک
لوگ ہمارے ہادی اور رہبر ہیں کہ ہم کو اس خاتم النبیین شفیع المذنبین کی حضوری میں
پہنچے لیے جاتے ہیں اگر ہم اپنی آنکھیں انکی قدموں کے نیچے چھاویں تو بھی کم ہے چہ جا

رضا جوئی میں کوئی کمی کریں کہ یہ تو سرسراہٹ ہی فائدہ ہے اور احتیاط و خودداری مقتضی
 عقل و دانشمندی ہے یہ عموماً مسافریں کو ہر سفر میں لازم ہے کچھ وہیں پر حصر نہیں ہے
 پس بعد حصول شرف حج و زیارات بلحاظ دینی ہمدردی کے راقم نے چاہا کہ کوئی کتاب جو
 واسطے نفع مرض سستی و کم رغبتی امور دینیہ و اختلاف باہمی کے مفید عام ہو ترتیب کر
 چنانچہ بعد کابل فکر و غور کے کلام احکم انھما کمین سے بڑھکر کوئی علاج مفید نظر نہیں آیا کیونکہ
 اس میں کسی مؤمن کو مجال انکار نہیں ہے بنا علیہ بغرض فائدہ عام برادران دین کمال
 محنت سے اوامر و نواہی کلام اللہ کو مع ترجمہ اردو تحت لفظی اس کتاب میں جمع کیا گیا
 تاکہ عام مؤمنین اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہر شخص جان لے کہ اللہ جل جلالہ
 عم نوالہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ مامورات و مہیات کی بابت کس کس تاکید ارشاد فرمایا ہے
 خصوصاً کلام اللہ میں بیسی بر اللہ جل جلالہ نے نماز کا ارشاد فرمایا ہے پس مؤمنین غور کریں کہ جس کام کا
 مالک اختیار حکم دیتا ہے اسکی تعمیل فرض و واجب ہو جاتی ہے جس کام کے واسطے
 اس کثرت کے ساتھ متواتر احکام صادر فرمائی ہوں اسکی تعمیل میں سستی و کاہلی کرنا
 یا معاذ اللہ اس کا نکرنا کیسا کچھ موجب ناراضی و خفگی مالک کا ہے اور جو کوئی اسکی تعمیل
 پوری کرے وہ کیسے کیسے انعامات کا مستوجب ہو سکتا ہے جسکا وعدہ کلام اللہ میں
 جا بجا موجود ہے آبدائے کتب میں چند آیات توحید باری تعالیٰ عز اسمہ نقل کی گئی ہیں
 ایسا ہی آیات منع شرک ایکجا جمع کی گئی ہیں تاکہ خدا کی توحید اور شرک کی برائی ہر شخص
 کے دل نشین ہو جاوے اور عام لوگ بھی خوب جان لیں کہ وہ وحدہ لا شریک شرک
 سے سخت بیزار ہے حتیٰ کہ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ**
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكًا بَعِيدًا یعنی تحقیق کہ خدا نہیں بخشتا
 اسے جو شرک کرے ساتھ خدا کے اور ٹھنڈا ہے وہ گناہ جو شرک کے سوا ہے اسے

جسکے کہ چاہتا ہے اور جو کوئی شرک کرے ساتھ اللہ کے پس تحقیق کہ گمراہ ہو گیا حق سے گمراہی
 دور اور فرماتا ہے **رَأَى مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْلَاهُ النَّارَ** یعنی تحقیق کہ
 جو کوئی شرک کرے ساتھ خدا کے پس تحقیق کہ حرام کر دی ہے اللہ نے اوپر اُسکے جنت اور
 جگہ اُسکی دوزخ ہے **بیت** اگر حرم دل از غیر دوست سازی پاک و صفائی و حدت
 صرف اندرو کنی اور اک * بعدہ وہ آیات جو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 اور اُنکے اہل بیت اطہار و اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ عنہما جمعین کی شان میں نازل
 ہوئی ہیں علی الترتیب جمع کی گئی ہیں جس سے مقصود خاص یہ ہے کہ مومنین کے دلوں
 میں محبت جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اُنکے اہل بیت اطہار و اصحاب کبار رضوان
 اللہ عنہما جمعین کی خوب پختہ ہو جاوے اور مضبوط جڑ پکڑ جاوے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے
 قرآن مجید میں جو عظمت و شان اپنے حبیب کریم علیہ علی آلہ و اصحابہ الصلوٰۃ والسلام اور
 اُنکے اہل بیت اطہار و اصحاب کبار رضوان اللہ عنہما کی بیان فرمائی ہے دیکھی آنکھوں کے
 اُسکا مشاہدہ کر لین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عین خدا کی اطاعت
 اور اُنکی محبت میں خدا کی رضا سمجھین دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ**
اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا یعنی جو کوئی اطاعت کرے رسول کی
 تحقیق کہ اُس نے اطاعت کی اللہ کی خدا ہی کے حکم سے تو رسول کی فرمانبرداری خدا کی فرمانبرداری
 جلد عالم رضا حق جوید حق رضا سے تو یا رسول اللہ جان فدا سے تو یا رسول اللہ
 دیدہ جاوے تو یا رسول اللہ اور اُنکی فرمانبرداری و پیروی و محبت کو اپنی جان و مال
 ان باپ اولاد سے بہتر اور مقدم جانین دیکھو اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتا ہے **قُلْ إِنْ كَانَ**
آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنَحْوُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نَبَاتَتْ فَمَتَّوْهَُا وَتِجَارَةٌ تَحْسَبُونَ كَسَادَهَا وَ
مَسْلِكِينَ تَرْضَوْنَهَا حَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یعنی اگر بہن باپ بہائی قرابتدار اور مال تجارت

اور گہر مہار سے بہت دوست تمہیں محبت اللہ اور رسول اُسکے سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ لا
 اللہ عذاب اپنا پہن سے جان لو کہ اللہ رسول کی محبت کیسی ہے بہا نعمت ہے اور رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت و شان ہے **نظم** بصورت تو نگار سے نہ آفرید خدا
 ترا کشید و دست از قلم کشید خدا یا صاحب الجلال و یاسید البشر من سبحك المنیر لقد نور القمر
 لا یمكن الشفاء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لوامی نلیخا لورا بن جبینہ
 لاترن بالقطع القلوب علی **اور** دیکھو اللہ جل شانہ نے اہل بیت اطہار و اصحاب کبار رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما کی شان میں فرمایا ہے **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ**
تَطْهِيرًا یعنی سو اُسکے نہیں کہ چاہتا ہے خدا کہ لیا جاتے گناہ امی پیغمبر کے اہل بیت اور پاک
 کروے تلو گناہوں سے پاک کرنا اور فرماتا ہے **أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ** یعنی بہت بڑے ہیں درجہ
 کے رو سے نزدیک خدا کے اور فرماتا ہے **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** یعنی راضی اور خوش ہوا
 اللہ اُسے اور خوش ہو کہ وہ خدا سے یعنی اصحاب فقط اور ایسا ہی نظر تنبیہ مافلین آیات متعد
 جو مدت دنیا و فضیلت آخرت میں نازل ہوئی ہیں ایک جگہ جمع کی گئی ہیں تاکہ عام مومنین
 نظر عبرت سے دیکھیں اور خوب چہن کہ یہ دنیا مرد و شخص ناپائیدار بمقابلہ عاقبت کیسی ذلیل و
 خوار ہے کہ اسکے کسی کام کو ثبات و قرار ہی نہیں ہے **نظم** تحرز من الدنيا فان فناها
محل فنا لا محل بقاء فصفا لها ضروجة بكادة و راحتها مقرونة بغناء
 ناز و کار دنیا اعتبار سے اگر دار و دوروزے یا سہ چار بغفلت میگزاری روزگار کے
 مگر درگور خواہی کرو کار سے عقلمند وہ ہے کہ اس تہوڑی سی فانی زندگی کو بہت اور
 باقی رہنے والی عاقبت میں صرف کرے تاکہ آخرت میں حسرت و ندامت سے کف ہوسننے
 سے دنیا تو انی کہ عقبنی خرمی بخر جان من ورنہ حسرت بجا کسی گمے دولت زد دنیا برو
 کہ با خود نصیبے بعقبے برو تیس اسے بہا ہو اللہ اور اُسکے رسول کی اطاعت اور ان

واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ذخیرہ آخرت اور وسیلہ نجات سمجھنا پنا جان
 و مال انکی رضا و محبت میں نثار کرتے رہو دیکھو اللہ تمکا خود فرماتا ہے **وَاتَّبِعُوا لِيهِ الْوَسِيلَةَ**
 یعنی ڈھونڈو طرف اسکے وسیلہ پس وہ وسیلہ یہی ہے **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ**
مِنْكُمْ اس معبود و وحدہ لا شریک کی عبادت میں دل و جان سے مشغول رہو دیکھو خالق کریم
 فرماتا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي** یعنی اور ہم نے جنین پیدا کیا جنوں اور آدمیوں
 کو مگر اس واسطے کہ میری عبادت کریں پس اسکی عبادت کرو اور اسی کو اپنا خالق اور رازق اور
 کارساز حاجت روا پالنے والا مارنے والا اور پھر زندہ کرنے والا سمجھو اور اس وحدہ لا شریک
 پر اور اسکے فرشتوں اور اسکی کتابوں اور اسکے رسولوں پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور
 قیامت و آخرت پر سچے دل سے ایمان رکھو اور ملت حقیقہ دین اسلام پر مستقیم رہو محبت
 اور دوزخ کو حق سمجھو جزا و سزا آخرت کے معتقد رہو۔ اس دنیا سے فانی کی محبت میں او جھک
 دنیا سے غافل نہ ہو موت کو بہت یاد کرو اتباع سنت نبوی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اصحاب و تابعین و تبع تابعین و علمای محدثین و فقہا و مجتہدین کی پیروی کرو **حُكْمَ أَطِيعُوا اللَّهَ**
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور فرمانبرداری رسول کی کرو اور
 اطاعت کرو صاحبوں حکم کی اور ان باپ کی خدمت کرو صلہ رحم ادا کرو فقرا و مساکین و مساکین
 و ہمسایوں و ہنشینوں لوڈ می غلاموں کے ساتھ بسجاوت مروت و احسان کرو دیکھو بعد
 جل جلالہ عم نوالہ فرماتا ہے **وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَمَّا مَن كَانَ يَتَّقِ اللَّهَ**
 ساتھ مان باپ کے قول و فعل سے اور ساتھ قرابت والوں کے اور ساتھ یتیموں کے دلنوازی اور
 کارسازمی کر کے اور ساتھ مسکینوں کے صدقہ اور زکوٰۃ دیکر اور ساتھ پڑوسی قرابت والوں کے
 ساتھ شفقت اور مہربانی کے اور ساتھ پڑوسی جنبی کے اور ساتھ پڑوسی کافر کے اور بہلائی کرو

ساتھ ہمیشہ اور صحبت اور ساتھ راہ چلتوں اور مہمان و مسافر کے اور سلفہ لوٹدی علاموں کے
 لفظ نخل و ریاء و ہراف فضول خرچی مت کر یعنی جن مقاموں پر مال نہ خرچ کرنا چاہیے وہاں اپنا مال
 پرانہ مت کر و مثلاً زندگیوں بہانوں نقالوں وغیرہ کے تاشے یا سود و رشوت و زنا وغیرہ غیر مہیا
 میں باطل و خلاف شرع صرف کرنا یہ اسراف و فضول خرچی ہے۔ یہو والد تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَبْذُرُوا
 ثَمَارَ الْبُيُوتِ كَمَا تَبْذُرُونَ ثَمَارَ الْبَنَاتِ عِشْرَانِ مِائَةٍ أَوْ مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ
 کر موالے ہین بہانی شیطانوں کے کچھ دیکر احسان مت کرو خلق محمدی و صبر و شکر رضا و قناعت
 و تقویٰ توکل و فروتنی عفو و حلم اختیار کرو و تاسے عہد و اور ادائیگی الامات اور راستی پر ہمیشہ بکے
 رہو و یہو والد تعالیٰ شفیقون صابرون شاکرون متوکلون کے حق میں اور انکے حق میں جنہوں
 نے عفو و حلم اختیار کیا ہے اور اپنے عہد و نکی رعایت کرتے ہین اور امانتیں ادا کرتے ہین اور
 اپنی فرج کی حفاظت کرتے ہین کسی کسی بخشش اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے عدل و انصاف
 کو یقین پر پھر کسی کی حق تلفی مت کر کسی بیگناہ پر دست تعدی دراز کر کے اس چند روزہ
 زندگی مستعار کے لیے ظلم مت کرو مظلوموں کی آہ سے بچو خدا کے قہر و غضب سے ہر وقت ڈرتے
 رہو و یہو والد تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا غَافِلًا فَسَوْفَ نُصَلِّيُهَا نَارًا يَجْرِي فِيهَا
 کبے کام تعدی اور ظلم اور ستم کی راہ سے پس قریب ہے کہ لاویگے اُسے آگ میں ۵
 برس از آہ مظلومان کہ ہنگام دعا کرو اجابت از روح بہر استقبال می آید
 کسی کو ضرر و ظلمش و مادوم چراغ عیش مظلومان بمیرد
 نمی ترسد از ان کا یزد و تعالیٰ اگر چه ویر گیر و سخت گیر دہ
 اور جنہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیکر عاقبت کو اختیار کیا اور ظالموں کے ظلم سے انکے اور
 ظالموں کے حق میں فرماتا ہے فَسَوْفَ نُعَلِّمُنَ مَن تَكْفُرُ كَمَا عَاقَبْنَا الدَّارِيْنَ اَلَّذِيْنَ كَفَرَ
 الظالمون ہ یعنی قریب ہے کہ جانو تم اس شخص کو کہ ہوگی واسطے اُسکے عاقبت ابھی

سرے آخرت میں ادا تھیں نہ چھٹکارا پائینگے ظالم سے **۵** باش تا گل منی بہارا کہ افروزند خرد
 باش تا گل منی بہارا کہ افروزند خرد تا کہ از فارسی العرفی کا متن **۵** تا کی از دار الفارسی ساختن دار القرار
 خوش فوج و خوش علاج و طبع کذب فرا کبر و نخوت عنیت خود پسندی بگمانی و عیب جلی با سوسو بغض و کینہ
 غیظ و غصہ سے پرہیز کرو بلکہ جو تمہارے ساتھ برائی یا دشمنی کرے اُسکے ساتھ بہلائی اور نیکی کرو
 دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **۵** وَالْكَافِرِينَ الْفِئْتَةُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یعنی اور
 ہضم کرنے والے ہیں غصہ کے باوصف قدرت کے اور معاف کرنے والے ہیں آدمیوں کے
 اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو اور جان لو کہ احسان میں سب سے بہتر
 قسم یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بہلائی کرے جنہوں نے اُسکے ساتھ برائی کی ہو **۵**
 مردی گمان مبرکہ بروت پردلی باخشم گربائی تو دامن کہ کاملی بدی برامکانات کردن بدی
 براہل صبوری بود بخرد می یعنی کسانیکہ بے بردہ اند بدی دیدہ و نیکیوں کی کردہ اند
 اور اللہ فرماتا ہے **۵** وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذْ قَعَّ بِالْقَوْمِ هِیَ الْحَسَنَةُ فَاذِی الذَّنْبِ
 بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ بَاطِنًا وَهِيَ تَحْتِی الْعِزَّةُ یعنی برابر نہیں ہے نیکی اور بدی دفع کر برائی کو اس
 چیز کے سبب سے کہ نفس الامر میں وہ بہت نیک ہے پہر جب تو ایسا کر لگا اُسکے ساتھ کہ ہو
 تیرے اُسکے درمیان عداوت تو گویا کہ وہ دوست ہے کار ساز **۵**
 بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن ایلے من اسما
 ہر کہ بنود یار مارا ایزد اورا یار باد ہر کہ مارا رنج دادہ راجتس بسیار باد
 ہر کہ اندر راہ من خارے ہنداز دشمنی ہر گئے کز باغ عمرش بشگند بے خار باد
 حلال و حرام میں تمیز کرو حلال کہا و حرام سے بچو کیونکہ گالی مت دو بے اجازت غیر کے
 گہر میں نچلے جاؤ نامحرموں پر نظر مت ڈالو ناپ اور تول پورا کہو مشورہ کریا کرو کسیکا
 راز فاش مت کرو تہوڑا ہنسو بہت روو یا مروون بالمعروف و یمنھون عن المنکر کے

مال رہو جو زمینیں اس دنیا سے فانی پر فریفتہ ہو کر عاقبت سے ہاتھ اٹھا بیٹھا ہو وہ اسپر
عزیز کے خوب سمجھ لے

گر ملک تو شام تا میں خواہر بود وار سرد روم تا خشن خواہر بود
آرزو گرین جہان کنی عزم سفر ہمراہ تو چند گز کفن خواہر بود
یا عاشق الدنیا بغیرک و جمعا ولتند من اذا ارتك قضاها
تا چند اسیر نفس شیطان باشی افتادہ بدام فتن عصیان باشی
ترسم کہ چون پردہ از میان بردارند خوار و خجل و زار و پشیمان باشی
آورد خدا کی رحمت سے ہرگز ہرگز کسی حال میں بھی نا امید نہ ہو کیونکہ نا امید کی کفر
ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے دیکھو خود فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلٰى
انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيْمُ
یعنی کہہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے وہ بند و جہون نے اسراف کیا ہے
اور پڑا توں اپنی کے یعنی گناہوں میں افراط کی ہے اور حد سے زیادہ کئے ہیں نا امید
نہ ہو اللہ کی رحمت سے بیشک اللہ بخشد یگا گناہ سب بیشک وہ بخشنے والا ہے گناہوں
کا مہربان ہے بندوں پر چنانچہ یہ مقولہ اپنے حسب حال ہے

نذارم ہیچگونہ تو شہ راہ بجز لا تقنطو من رحمت اللہ
نفرمودی کہ نو میدی میاید ز من لطف و عنایت چشم دارید
ازین معنی بسے امید داریم ز لطف و عنایت چشم داریم
امید سے درد مند ان را روا کن دے امید واران را روا کن
مگر در توبہ کہلا ہے توبہ کر اور گناہوں کے باز آوے
باز آ باز آ ہر آنچہ کردی باز آ گر کا سرورند دے پرستی باز آ

این درگہ ماورگہ نویسی نیست صدبار اگر توبہ شکستی باز آ +
 غرض اسی طرح نکاح و مہر و طلاق و عدت و میراث وغیرہ وغیرہ اقسام
 مامورات و نیات جو متعلق ایمان و اعتقاد و اعمال کے ہیں جدا جمع کیے
 میں اور جتنی آیات مقدسہ قرآن مجید اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں ہر آیت کے
 ساتھ سپارہ و سورت و رکوع کا پتہ لکھ دیا ہے۔ واضح ہو کہ رکوع سے سورت کا
 رکوع مراد ہے نہ سپارہ کا اور نام اسکا چواہرا الصمد یہ رکھا گیا ایدناظرین سے
 یہ ہے کہ اگر کہیں سہو و خطا ہوئی ہو تو براہِ عفو و عطا اصلاح فرماوین اور اس عاصی
 پر معاصی کو دعا خیر سے محروم فرماوین

فقط

الفاتحة

توحید باری تعالیٰ عن رسول

سپاہ سورت	رکوع	آیات
		بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○
		شرح کرتا ہو نہیں ساتھ نام اللہ بخشش کر فیو الی مہربان کے
		لِحَمْدِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○
		سب تعریف واسطے اللہ کے پروردگار عالموں کا بخشش کرنے والا مہربان
		مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ○
		خداوند دن جزا کا تجھی کو عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم
		اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ
		دکھلا ہو گورا سیدھی راہ ان لوگوں کی
		الرَّحْمٰتِ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَعْصُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ○
		کہ نعمت کی ہی تھی اور پراگھی تھا اونکی جو غصتہ کیا گیا ہے اور پراگھی اور نہ راہ گرا ہوئی
الم	البقرة ۱۳	وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قَائِمًا لِّوَلُوْفِهِمْ وَجِهَ اللّٰهِ
		اور واسطے اللہ ہی کے مشرق اور مغرب پس جہ پر کونہ کر د پس زمین ہے موزنہ اللہ کا
سَبَّحَ	سَبَّحَ ۱۹	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ○
		اور سبوح تمہارا سبوح ایک ہی نہیں کوئی معبود مگر وہی بخشش کر فیو الی مہربان

<p>تلك الوسل بقرہ</p>	<p>۳۳</p>	<p>اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ</p> <p>اللہ ہنیں کوئی معبود مگر وہ زندہ ہے ہمیشہ رہنے والا ہنیں پڑتی اُسکو اذنگہ اور نہ نومتا ہے وہ اس کے لیے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے کون آدہ سفارش کرے</p> <p>عندہ الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم</p> <p>نزدیک اُسکے مگر سائے علم اُسکے کے کہ جانتا ہے جو کچھ آگے اُنکے ہے اور جو کچھ پیچھے اُنکے ہے اور زمین کو اور زمین کو اور ہنیں تہکاتی اُسکو نگہبانی اُن دونوں کی اور وہی ہے بلند مرتبہ والا</p>
<p>=</p>	<p>۱</p>	<p>شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ</p> <p>گواہی دی اللہ نے یہ کہ ہنیں کوئی معبود مگر وہ اور گواہی دی فرشتوں نے اور صاحب علموں نے</p>
<p>إِذَا سَمِعُوا</p>	<p>۱۲</p>	<p>اللَّهُ رَبَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ</p> <p>اللہ پروردگار ہمارا ہنیں کوئی معبود مگر وہ پیدا کرنے والا ہر چیز کا پس عبادت کرو</p>
<p>قَالَ الْمَاقِلُ طه</p>	<p>۱</p>	<p>الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى</p> <p>وہ رحمن ہے اور عرش کے قرار پکڑا اُس نے واسطے اُسکے ہے جو کچھ بیچ آسمانوں کے ہے اور جو کچھ درمیان اُن دونوں کے ہے اور جو کچھ پیچھے گیلی مٹی کے ہے</p>

قال المراقل ط	۱	إِنِّي نَأْتِي اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
		تحقیق میں ہی ہوں اللہ نہیں کوئی معبود مگر میں پس عبادت کرو میری اور قائم رکھو نماز کو واسطے یاد میری
اقرب انبیاء	۱	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ○
		ہنیں کوئی معبود مگر میں پس عبادت کرو مجھ کو
اقرب انبیاء	۵	وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ○
		اور میں ہوں پروردگار تمہارا پس عبادت کرو میری
قد افلح النور	۴	اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا
		اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا مثال نور اسکے کی مانند طاق کے ہے کہ بیچ آگ
		مِصْبَاحٍ مِّصْبَاحٍ فِي زُجْجَةٍ زُجْجَةٍ كَانَهَا كَوْكَبًا
		چراغ جو وہ چراغ بیچ قندیل تیشہ کے ہے وہ قندیل تیشہ کا گویا کہ وہ تارا ہے
		لَيْلِي يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ شَرْقِيَّةٍ
		چمکتا روشن کیا جاتا ہے وہ چراغ درخت مبارک زیتون کے سے کہ نہ مشرق کی طرف ہے
		وَأَغْرِبِيَّةٍ تَكَادُ زَيْتُونِيَّةٍ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ
		اور نہ مغرب کی طرف نزدیک ہے کہ تیل اشکار روشن ہو جاوے اور اگرچہ نہ لگے اسکو آگ روشنی
		عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ط
		اور پر روشنی کے راہ دکھاتا ہے اللہ طرف نور اپنے کے جسکو چاہتا ہے
امن خلق قصص	۳	إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○
		تحقیق میں ہوں اللہ پروردگار عالموں کا
اتل ما اوحى لقمن	۲	اللَّهُ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
		واسطے اللہ کے ہے جو کچھ ہم آسمانوں کی اور زمین کی ہے تحقیق اللہ ہی ہے بے پروا تعریف کیا ہے

۲۱ اتلھا اور لقمن	۳	وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ اور اگر ہو یہ کہ جو کچھ بیچ زمین کے ہے درختوں سے تلپیں اور دیا ہو
۲۵ الیه یورد الشور	۲	يُمِدَّاهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَاتَقَدْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ سیاہی اُسکی تھی اُسکے ہون سات دریا نہ تمام ہو بلکہ بائیں اُسکی
۲۴ قال فإياكم الحديد	۱	إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْتَكُمُ إِلَّا تحقیق اللہ غالب ہے حکمت والا نہیں بنانا تمہارا اور نہ جلانا تمہارا مگر
۲۸ قد صغرت الحشر	۳	كُنُفَيْسٍ وَإِحْدَاقٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مانند ایک جان کے تحقیق اللہ سنے والا دیکھنے والا ہے
۲۶ حم محمد	۲	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ نہیں مانند اُسکے کوئی چیز اور وہی سنے والا دیکھنے والا ہے
۲۷ قال فإياكم الحديد	۱	هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وہ ہے سب سے پہلے اور سب سے پیچھے اور سب سے ظاہر اور سب سے چھپا ہوا
۲۸ قد صغرت الحشر	۳	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود مگر اللہ
۲۸ قد صغرت الحشر	۳	هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وہی ہے اللہ جو نہیں کوئی معبود کردہ جاننے والا برستدہ کا اور حاضر کا
۲۸ قد صغرت الحشر	۳	هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ وہی ہے بخشش کرنے والا مہربان وہی ہے اللہ جو نہیں کوئی معبود کردہ بادشاہ ہے
۲۸ قد صغرت الحشر	۳	الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْمُغْتَابُ الْمُنْتَهَبُ بیت پاک سلامت سب سے پہلے والا گھبان غالب بر دست مگر والا پاک ہے

	<p>اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْمَبْدُؤُا لِكُلِّ شَيْءٍ</p>
	<p>اللَّهُ كَوْنَهُ مِنْ دُونِ الْمَادَّةِ بِمَا كُنَّ تَدْرُسُ وَلَا صُورَتَيْنِ بِنَاخِلِهَا وَأَسْمَىٰ رِسْمِيٍّ مِنْ</p>
<p>قد سمع الله</p>	<p>اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ</p>
<p>الطاف</p>	<p>يَنْهَضُونَ لِيَلْعَنُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِلَّهِ قُلُوبٌ لَا يَتَعَلَّمُونَ</p>
<p>سورة التوفا</p>	<p>قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ كَقَوْلِ الْوَاحِدِ</p>

قرب حق

سپارہ	سورت	رکوع	آیات
سینقول	البقرة	۲۳	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
تلاذ	الانفال	۳	أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
حم	ق	۲	وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ أُرِيدُ

قَالَ مَا خَطْبُكَ يَا فاطمة	۳	فی مقعد صدق عند مليك مقتدر
		پچ مقام راستی کے نزدیک بادشاہ قدرت واسے کے
" واقعة	۳	وَلَا تَحْزَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُرْهَانَ
		اور ہم بہت نزدیک ہیں طرف اسکے تھے اور لیکن ہین دیکھتے ہو تم
" حدیث	۱	وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
		اور وہ ساتھ ہمارے ہے جہاں ہو تم
<p>احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی فرمانبرداری اور پیروی کرنے اور اپنی پروا نہ دیکھنے اور نیز آیات شرف و تعظیم آنحضرت رسالت پیغام سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم</p>		
سیاہ سورت رکوع	آیت	
الم	۱۳	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
		تحقیق بھیجا ہم نے تجھ کو ساتھ حق کے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا
سبقول	۱۴	كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
		جیسا بھیجا ہم نے پچ تمہارے پیغمبر تم میں سے پڑھتا ہے اور تمہارے آیتیں ہماری
		وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
		اور پاک کرتا ہے تم کو اور دکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت اور دکھاتا ہے تم کو جو کچھ کہہ نہیں
		تکونوا تعلمون
		تھے تم جانتے +

تِلْكَ الرُّسُلُ أَنْعَمَ	۳	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝
تِلْكَ الرُّسُلُ الْعِزَّةُ	۱	<p>کہہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو پس پروردی کر دیری چاہے تمکو اللہ اور اللہ کی اور رسول کی پس اگر پہر جاوین پس تحقیق اللہ نہیں دوست کہتا کہ فردن کو</p> <p>وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ أَوْ حِكْمَةٍ لَمْ تَرْحَمُوا كَمَا رَسَلْتُكُمْ مَصْرَفًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُنْفِقُنَّ يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهُ لِمَنْ شَاءَ فَاصْرَفْهُ مِنْكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصْرَفْنَاهُ مِنْكُمْ وَإِنَّا مَعَكُمْ وَإِنَّا كَارِمُونَ ۝</p> <p>اور جو وقت لیا اللہ نے عہد لینا ہم سے کہ جب تم کو کتاب سے اور حکمت سے پہر آوے تمہارے پاس پیغمبر بھیجا کرنے والا اس چیز کو کہ ساتھ تمہارے ہی اللہ ایمان لائے</p> <p>وَلْتَنْصِرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَالَ آفِرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ سِتْرًا مَسْكُونًا ۝</p> <p>ساتھ اس کے اور اللہ مدد دینا اس کو کہا کیا اقرار کیا منے اور کیا منے اوپر اس کے</p> <p>وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَدْنَا الْمُؤْمِنِينَ الْعَذَابَ ۝</p> <p>پہراری عہد میرا کہا انہوں نے اقرار کیا منے کہا پس شاہد ہو اور میں ساتھ تمہارے</p> <p>مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝</p> <p>شاہد دن سے ہوں پس جو کوئی پہر جاوے پیچھے اس کے پس یہ لوگ</p> <p>هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝</p> <p>وہی ہیں فاسق بدکار</p>
لَنْ يَتَّخِذَ الْكٰفِرُوْنَ اٰلِ عِمْرٰنَ	۱۳	وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ يَرْحَمُونَ ۝

التین	ال عمران	<p>لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا</p> <p>تحقیق احسان کیا اللہ نے اور ایمان والوں کے جوت پر بھیجا انکے پیغمبر</p> <p>مَنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ</p> <p>اپس انکے سے پڑھتا ہے اور انکے نشان ان کی اور پاک کرتا ہے ٹھکر اور کھاتا ہے انکو</p> <p>الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِنْ قَبْلُ</p> <p>کتاب اور حکمت اور تحقیق تھے پہلے اس سے</p> <p>لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝</p> <p>البتہ ایسے گمراہی ظاہر کے</p>
والمحبت	النساء	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ</p> <p>اے لوگو جو ایمان لائے ہو فرمانبرداری کرو اللہ کی اور کہا مانور رسول کا</p> <p>وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ</p> <p>اور صاحبوں حکم کے تم میں سے پس اگر جھگڑو تم: جع کسی چیز کے پس پس روٹو</p> <p>إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ</p> <p>طرف اللہ کے اور رسول کے اگر ہو تم ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور</p> <p>الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝</p> <p>دن پچھلے کے بہتر ہے اور بدلہ اچھا جزا ہی</p>
والمحبت	۹	<p>وَأُولِي الْأَمْرِ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا</p> <p>اور اگر یہ لوگ جوت کر ظلم کرتے ہیں جانوں اپنی کو تو میں تیرے پاس پس بخشش مانگیں</p> <p>اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝</p> <p>اللہ سے اور بخشش مانگے داسنے انکے رسول البتہ پادشہ کے اللہ کو پھر نوالا مہربان</p>

<p>بَيْنَهُمْ تَرَكَ يَاجِدُ وَاقِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا</p>	۸	والحصن النساء
<p>دربان آئے پر نہ پاویں بیچ جو اپنے کے تکی اس چیز سے</p>		
<p>قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوا سَلِيمًا</p>		
<p>کہ حکم کرے تو اور مان لیوں مان لینے کو</p>		
<p>وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ</p>	۹	والحصن النساء
<p>اور جو کوئی فرمانبرداری کرے اللہ کی اور رسول کی پس یہ لوگ ساتھ آن لوگوں کے ہیں</p>		
<p>أَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ</p>		
<p>کہ نعمت کی ہے اللہ نے ان پر ان کے پیغمبروں سے اور صدیقوں سے</p>		
<p>وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا</p>		
<p>اور شہیدوں سے اور صالحوں سے اور اچھے ہیں یہ لوگ رفیق</p>		
<p>ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عِلْمًا</p>		
<p>یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کفایت ہے اللہ جانتے والا</p>		
<p>مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى</p>	۱۱	=
<p>جو کوئی کہانے رسول کا پس محبتیں کہانا اللہ کا اور جو کوئی پہر جاوے</p>		
<p>فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا</p>		
<p>پس نہیں بھیجا میں جملہ اور آئیے انجان</p>		
<p>وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ</p>	۱۲	=
<p>اور جو کوئی بر خلاف کرے رسول کے پچھانے کہ ظاہر ہوئی واسطے اسکے</p>		
<p>أَهْلًا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى</p>		
<p>ہمیں اور پیروی کرے سوا ماہ ستاروں کے تو بد کرنے ہم اس کو اور پیروی کرے</p>		

وَنُصِبَ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

اور داخل کرینگے ہم اسکو دوزخ میں اور بری ہے جہنم پر جاتی کی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ

اسے لوگو تحقیق آیا تمہارے پاس پیغمبر ساتھ حق کے پروردگار تمہارے کو

فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي

پس ایمان لاؤ بہتر ہوگا واسطے تمہارے اور اگر کفر کر دے پس تحقیق واسطے اسکی ہے جو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

سج آسمانوں کے اور زمین کے ہے اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي اللَّهُ

تحقیق آئی تمہاری پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب بیان کرنے والی ہدایت کرتی ہے ساتھ

مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَمِنْهُمْ الظُّلُمَاتُ

اس شخص کو کہ پیروی کرتا ہے رضامندی اسکی راہ میں سلامتی کی اور انکا تہا انکو تارکوں سے

إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَكْدِيمُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

طرف روشنی کے ساتھ حکم اپنے کے اور ہدایت کرتا ہے انکو طرف راہ سیدھی کے

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ

اور جو کوئی دوست پکڑے اللہ کو اور رسول اس کے کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تحقیق

حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

گروہ اللہ کے وہی ہیں غالب

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحِدًا وَإِن لَّيَكُنَّ

اور برابر داری کرہ اللہ کی اور کہا مانو رسول کا اور اللہ اور اللہ پس اگر

کلیت

النساء

۳۳

ماید

۳

۸

=

=

وإذا سمعوا

۱۲

=

تَلِيْمًا فَاَعْلَمُوْا اِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ لِلْبٰیْنِۙ

پہرچاؤم پس جانو یہ کہ اور پیغمبر ہمارے کے پہنچانا ہے آشکارا

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الْبَلٰغِ الَّذِيْ يَخْبُرُوْنَ

وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے ان پر وہ جو پاتے ہیں اسکو

مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

کہا ہوا نزدیک اپنے بیچ تدریت کے اور انجیل کے حکم کرتا ہے انکو ساتھ بہلانے کے

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

اور منع کرتا ہے انکو نامستول چیز سے اور حلال کرتا ہے واسطے انکے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے اور

الْمَخْتَبَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

نہاں چیزیں اور اتار دیتا ہے انکے بوجھ اور طوق جو تھے

عَلَيْهِمْ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا

اوپر انکے پس جو لوگ کہ ایمان لائے ساتھ اسکے اور قوت دی اسکو اور مدد کی اسکی اور پیروی کی

الرَّسُوْلَ الَّذِيْ اُنزِلَ مَعَهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۙ قُلْ يَا أَيُّهَا

اس نور کی کہ اتارا گیا ہے ساتھ اسکے یہ لوگ وہ ہیں فلاح پانے والے کہہ لئے

النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ

لوگو حقیق میں پیغمبر ہوں اللہ کا طرف ہمارے سبکے وہ جو واسطے اسکے

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَ

بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ کرتا ہے اور

يُمِيْتُ فَاْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِيْ يُوْنِ

ماتا ہے پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور پیغمبر اسکے کے جو نبی ہے ان پر اور جو ایمان لائے

قال اللہ

اعراف

۲۱۹

<p>بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوا لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○</p>				
<p>اللہ کے اور باتوں اسکے اور پیروی کرو اسکی تو کہ تم راہ پاؤ</p>			<p>قال الملا</p>	<p>انفال</p>
<p>أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ○</p>	<p>۱</p>			
<p>اور فرمان برداری کرو اللہ کی اور رسول اسکے کی</p>				
<p>وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ○</p>	<p>۲</p>	<p>=</p>	<p>=</p>	<p>قال الملا</p>
<p>اور نہ ہینکا تھا تو نے جو وقت کہ ہینکا تھا تو نے لیکن اللہ نے ہینکا تھا</p>				
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا</p>	<p>۳</p>	<p>انفال</p>		
<p>ای لوگو جو ایمان لائے ہو فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول اسکے کی اور مت پیرو</p>				
<p>عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ○ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ</p>				
<p>اس کے اور تم سنیے ہو اور مت ہو مانند ان لوگوں کے</p>				
<p>قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○</p>				
<p>کہ کہتے ہیں سنا ہے اور وہ نہیں سنیے</p>				
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا</p>				
<p>اسے لوگو جو ایمان لائے ہو پکارنا قبول کرو واسطے اللہ کے اور واسطے رسول کے</p>				
<p>دَعَاكُمْ لِأَجْبِبِكُمْ ○</p>				
<p>پکارے کچھ واسطے اسکے کہ زفرہ کرے کچھ</p>				
<p>وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○</p>				
<p>اور نہیں تھا اللہ کہ عذاب کرنا تم کو اور تو جانتے تھے</p>				
<p>وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ○</p>	<p>۵</p>	<p>توبہ</p>		
<p>اور فرمان برداری کرو اللہ کی اور رسول اسکے کی</p>				

واعلموا	توبہ	۵	<p>يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى</p> <p>ارادہ کرنے میں کہ بجا دیوں روشنی اللہ کی کو ساتھ مومن اپنے کے اور نہیں چاہتے</p>
			<p>اللَّهُ إِلَّا أَنْ تَنْتَهِرَهُ وَكُلُّ كَافِرٍ لَا يَأْمُرُ</p> <p>اللہ۔ مگر یہ کہ پورا کرے روشنی اپنی کو اگر یہ ناخوش رکھیں کافر</p>
			<p>هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ</p> <p>وہی ہے جسے بجا رسول اپنے کو ساتھ ہدایت کے اور دین</p>
			<p>الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُلُّ شَرِّ كَافِرٍ</p> <p>حق کے تو کہ غالب کرے اوسکو اور دین سب کے اگرچہ ناخوش رکھیں مشرک</p>
واعلموا	توبہ	۶	<p>وَمِنَهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ ذَن</p> <p>اور بعضے انہیں سے وہ میں کہ ایذا دیتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں وہ ہر کسی بات شکر لگا دیا</p>
			<p>قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُوعَى مِنْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ</p> <p>کہہ سننے والا بہتر ہے تمہارے ایمان لانے سے ساتھ اللہ کے اور پورا کرنا والا واسطے</p>
			<p>وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ</p> <p>اور رحمت ہے واسطے انکے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور جو لوگ کہ ایذا دیتے ہیں</p>
			<p>رَسُولَ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ</p> <p>رسول اللہ کے کو واسطے انکے عذاب ہے درد دینے والا تمہیں کہاتے ہیں ساتھ اللہ کے واسطے</p>
			<p>لَا يَرْضَوْنَ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا</p> <p>تو کہ ماضی کریں نہ کو اور اللہ اور رسول انکا بہت حق دار ہیں اسلئے کہ ماضی کریں اسلئے</p>
			<p>إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنَ تَحَادِدِ اللَّهِ</p> <p>اگر میں ایمان والے کیا نہیں جانا انہوں نے یہ کہ جو کوئی خلاف کرے اللہ</p>

وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَا ذِكْرٍ

اور رسول آپ کے کا پس یہ کہ واسطے آپ کے ہے اگ نطفہ کی ہمیشہ رہنے والے جو آپ کے ہے

النَّخْرِيُّ الْعَظِيمُ

رسوالتی بری

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزَّزْتُ عَلَيْهِ مَا

اللہ تعالیٰ آپ کے تمہارے پاس بھیجے نفس تمہارے سے شاق ہے اور آپ کے یہ کہ

عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ حَرِيمٌ

ایدا میں پر دم مومس کرنے والا ہے اور بہلائی تمہاری کے ساتھ مسلمانوں کے شفقت کرنے والا

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

پس اگر پر جا دین پس کہہ کفایت ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اور آپ کے توکل کیا میں اور وہی ہے پروردگار تخت بڑے کا

إِنِّي لَكُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ وَنَسِيرٍ

تجسین میں واسطے تمہارے اس سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں

لَعَنُوكَ إِهْمُ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

تمہارا زندقہ تیری کی تجسین دو البتہ بوجہ مستی اپنی کے سرگردان ہے

سَبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

یا کی ہے میں حضرت کو لیتا اپنے بند سے لائے کہ رات کو مسجد

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا

حرام سے جہن مسجد اقصیٰ کی بارکنا

۱۶

انفال

بعثتہون

۱

ہود

۱۱

۲

حجر

۱۳

۱

بواسطہ اشیل

۱۵

حَوَاهُ لِنُزْهِهِ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ			
گرد آئے دیکھو دیکھا دین ہم اسکو لٹا ہوں اپنے کھینچ دے سکتے والا دیکھنے والا			
وَمِنَ الْبَيْتِ فَتَدْبِرُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ	۹	=	=
اور جوڑی سی رات کو پس نماز کے ساتھ قرآن کے پڑھنے میں واسطے ترسے شتاب کر بھیجے جھکو			
رَبِّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا			
پروردگار تیرا مقام محمود میں			
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا	۱۲	=	=
اور نہیں بھیجا ہمیں جھکو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا			
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ	۷	انبیاء	قرب
اور نہیں بھیجا ہمیں جھکو مگر رحمت واسطے عالموں کے			
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ الَّذِي تَتَّقُونَ	۷	نور	قدا فح
اور جو کوئی فرمان برداری کرے اور رسول اس کے کی اور ڈرے اللہ سے اور پرستگاری کرے			
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ			
پس: لوگ وہ سے ہیں مراد پالنے والے			
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا	=	=	=
کہ فرمان برداری کرو اللہ کی اور رسول اس کے کی پس اگر پھر جاؤ			
فَأِنَّمَا عَلَيْهِ مَأْجِلٌ وَعَلَيْكُمْ مَا حَسِبْتُمْ وَاللَّطِيفُ			
پس سوائے اس کے نہیں کو وہ اور یہاں ہے جو کہہ اٹھو اس کے علم اور اگر فرمان برداری کو اس کی			
فَتَدَّبَّرُوا وَتَدَّبَّرُوا الرَّسُولَ إِلَّا الْبَلِغُ الْمُبِينُ			
مادہ یاد اور نہیں اور پھر پھر کے مگر یہاں دینا ظاہر			

<p>۱۸ تذاتلہ</p>	<p>نفسا</p>	<p>۷</p>	<p>وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُلَ <small>اور قائم رکھو نماز کو اور دو زکوٰۃ اور فرمان برداری کر رسول کی</small></p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>۹</p>	<p>لَا تَجْمَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا <small>مت مقرر کرد پکارنا پیغمبر کا در بیان اپنے جیسا پکارنا جسے تمہارے بعضوں کو</small></p>
<p>۱۹ وقال الذين</p>	<p>فكان</p>	<p>۵</p>	<p>وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا <small>اور نہیں پہنچا ہونے چکو کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا</small></p>
<p>=</p>	<p>الشعر</p>	<p>۱۱</p>	<p>وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ <small>اور ڈرا قبیلے اپنے نزدیک مالوں کو اور نیچا کر بازو اٹانا</small></p> <p>لِيَنْبَغِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي <small>دائے اس شخص کے کہ بیروی کرنا ہے تیری ایمان والوں میں سے پس اگر نافرمانی کرن تیری ہرگز</small></p> <p>بَرِيٍّ فَمَا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرْبُّكَ <small>بزار ہوں اس چیز سے کہ کرنے ہو تم اور توکل کرو اس غالب مہربان کے جو دیکھتا ہے چھو</small></p> <p>حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي الْبَيْدِ نَزْهُو السَّمِيعِ الْعَلِيمِ <small>جب وقت کہ اٹھتا ہے تو اور پھرتا ہے تیرا ہر جگہ کہنے والوں کے کہ سب سے زیادہ جاننے والا</small></p>

<p>وَأَنذَرْتُكَ لَتَلْقَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝</p>	۱	النمل	وقال الله
<p>اور تحقیق تو ابنتہ سکھلایا جاتا ہے قرآن نزدیک حکمت واسلے علم واسلے کے سے</p>			
<p>فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝</p>	۶	۷	المؤمن
<p>پس توکل کہ اوپر اللہ کے تحقیق تو اوپر حق ظاہر کے ہے</p>			
<p>الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ</p>	۱	الاحزاب	انل ماود
<p>نبی بہت شفقت کر نوا لہے مسلمانوں پر جانوں انکی سے اور بیبیان انکی بائین میں ہمارے</p>			
<p>وَأُولَآئِكَ رَحِمَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ</p>			
<p>اور قرابت واسلے بعض انکے نزدیک تر ہیں بعضوں سے بیچ کتاب اللہ کے</p>			
<p>مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمُ</p>			
<p>ایمان والوں سے اور ہجرت کر نیوالوں سے مگر یہ کہ کو طرف دوستوں اپنے کے</p>			
<p>مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝</p>			
<p>احسان ہے یہ بیچ کتاب کے کہا ہوا</p>			
<p>لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ</p>	۳	=	=
<p>ابنتہ تحقیق ہے واسلے تمہارے ہم رسول خدا کی پیروی ابھی واسلے اس شخصوں کے کہ</p>			
<p>يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَنَارَ الْمُؤْمِنِينَ</p>			
<p>امید رکھتا ہے خدا کی اور دن پچھلے کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت اور جو وقت دیکھا ایمان</p>			
<p>الْآخِرَاتِ لِيُوَافِقُوا أَمْرَهُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ صِدْقٌ</p>			
<p>جماعتوں کا فروغ کی کہا یہ ہے جو وعدہ دیا ہے ہم کو اللہ نے اور رسول انکے نے اور سچ کہا تھا</p>			
<p>اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِيمَانًا وَسَلِيمًا ۝</p>			
<p>اللہ نے اور رسول انکے نے اور نہ زیادہ کیا انکو مگر ایمان اور اطاعت کرنا</p>			

<p>مَنْ يَفْتَنُ الْغُيُوبَ ۝</p>	<p>۵</p>	<p>=</p>	<p>=</p>	<p>=</p>	<p>=</p>
<p>وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ</p>	<p>اور نہیں ہے لایق واسطے کسی مرد مسلمان کے اور نہ عورت مسلمان کے کہ جس وقت کہ مقرر کرے اللہ اور</p>	<p>أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِرِ اللَّهَ</p>	<p>کوئی کام یہ کہ ہو دے واسطے انکے اختیار کام اپنے سے اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی</p>	<p>وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝</p>	<p>اور رسول اسی کی پس تحقیق گمراہ ہوا مگر ابھی ظاہر</p>
<p>مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ</p>	<p>نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسیکا مردوں تمہارے میں سے لیکن پیغمبر خدا کا ہے</p>	<p>وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝</p>	<p>اور ختم کرنے والا تمام نبیوں کا اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا</p>	<p>يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا</p>	<p>اے نبی - تحقیق ہم نے بھیجا ہے تجھ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا</p>
<p>وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرًا مُّبِينًا ۝</p>	<p>اور پکارنے والا طرف اللہ کے ساتھ حکم اسکے کے اور چراغ روشن</p>	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا</p>	<p>اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت داخل ہو بیچ گھروں پیغمبر کے مگر</p>	<p>أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ بْنِ سَاءٍ وَلَكِنْ</p>	<p>یہ کہ اذن دیا جاوے واسطے تمہارے طرف کہانے کے اور نہ انتظار کرنا کہ کہنے کی جگہ کی اور</p>
<p>إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا</p>	<p>جب بلائے جاؤ تم پس داخل ہو پس جب کہا چکو پس متفرق ہو جاؤ</p>	<p>إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا</p>	<p>جب بلائے جاؤ تم پس داخل ہو پس جب کہا چکو پس متفرق ہو جاؤ</p>	<p>إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا</p>	<p>جب بلائے جاؤ تم پس داخل ہو پس جب کہا چکو پس متفرق ہو جاؤ</p>

<p>وَلَا مَسْتَأْذِنِينَ كَبَرْتُمْ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْتَى</p>	۹	۲۲ وَنَقِطَتِ الْأَحْرَابُ
<p>اور مستأذین بھی لگا رہے ہوں اسے واسطے باتوں کے تحقیق یہ کام ہے ایسا دیتا</p>		
<p>النَّبِيِّ فَيَسْتَعِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِي مِنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ</p>		
<p>نبی کو پس شرماتا ہے تم سے اور اللہ نہیں شرماتا حق بات سے</p>		
<p>وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ</p>		
<p>اور جب وقت مانگا جاوے اسے کچھ اسباب پس انکے لوہنے پیچھے</p>		
<p>حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ</p>		
<p>پر دے کے سے یہ بہت پاک کرنے والا ہے واسطے دلوں تمہارے اور دلوں انکی اور انہیں</p>		
<p>لَكُمْ أَنْ تَوَدَّوْا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا زُجَرَ</p>		
<p>واسطے تمہارے یہ کہ لاینا اور رسول خدا کے کو اور نہ یہ کہ نکاح کرو بیبیوں اسکی کو</p>		
<p>مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا</p>		
<p>پیچھے اسکی کہی تحقیق یہ ہے نزدیک اللہ کے بڑا گناہ</p>		
<p>إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ</p>	۵	۲۲ وَنَقِطَتِ الْأَحْرَابُ
<p>تحقیق اللہ اور فرشتے اسکی درود بھیجتے ہیں اور نبی کے اسے لوگو جو</p>		
<p>أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا</p>		
<p>ایمان لائے ہو درود بھیجو اور اسکی اور سلام بھیجو سلام بھیجا</p>		
<p>إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي</p>	=	=
<p>تحقیق جو لوگ کہ انہا دستے ہیں اللہ کو اور رسول اسکی کو لعنت کی ہے انکو اللہ نے بع</p>		
<p>الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا</p>	=	=
<p>دنیا کے اور آخرت کے اور تیار کیا ہے واسطے انکے عذاب رسوا کرنے والا</p>		

۲۲ مزینت	الاحزاب	۹	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ بَرَأَ اللَّهُ مَثَلًا اسے لوگو جو ایمان لائے ہو سنت ہو مانند انہوں لوگوں کے کہ ایذا دی انہوں نے موسیٰ کو
۵	السیا	۳	فَبَرَأَهُ اللَّهُ مَثَلًا لِّوَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ وَعِجْمًا پس پاک کیا اُسکو اللہ نے اُس چیز سے کہ کہتے تھے اور تھا وہ نزدیک اللہ کے ابرو والا
۵	فاطر	۳	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور نہیں بھیجا ہم نے تمکو کما فی واسطے سب لوگوں کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا
۵	یس	۱	وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن بہت لوگ نہیں جانتے
۵	یس	۱	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا حقیق ہم نے بھیجا تمکو سادہ حق کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا
۲۶۱ الح	الفجر	۱	يَسْرُ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلِيٌّ اسے سیدہ ستم ہے قرآن حکم کی حقیق تو البتہ بھیجے ہوں سے ہے اور راہ مُسْتَقِيمٍ سیدہ ہی کے
۲۶۱ الح	الفجر	۱	إِنَّا فَخَّرْنَاكَ فَتَنَّا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ حقیق فتح دی ہم نے تمکو فتح ظاہر تو کہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے مِن ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَإِنَّمَا نَعْمَةٌ عَلَيْكَ وَمَكْرُومٌ منا ہوں تیرے سے اور جو کچھ تیرے ہوا اور تو کہ تمام کرے نعمت اپنی اور تیرے ہوا کہلاؤ تمکو
۲۶۱ الح	الفجر	۱	صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيُصْرِكِ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا راہ سیدہ ہی اور ہو کرے تمکو اللہ عز و غالب

	<p>إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا</p> <p>حقیق یہی ہے جسکو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانا تو کہ ایمان لائے</p> <p>بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّزُوا وَتُوقِرُوا وَتُسَبِّحُوا</p> <p>ساتھ اللہ کے اور رسول اسکی اور قوت دو اسکو اور تعظیم کرو اسکی اور تسبیح کرو اللہ کو</p> <p>بِكُرَّةٍ وَأَصْبَارٍ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ</p> <p>صبح اور شام حقیق وہ لوگ بیعت کرتے ہیں تجھے سوائے اسکے کہ نہیں کہ بیعت</p> <p>اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ</p> <p>اللہ سے ہاتھ اللہ کا ہے اور ہاتھ انکے کے</p>	<p>۱</p> <p>الف</p>	<p>۱</p>
	<p>وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتِ بَيْتِي</p> <p>اور جو کوئی فرمان برداری کرے اللہ کی اور رسول اسکی داخل کریگا اسکو بہشتو نہیں جاتی ہر</p> <p>مِنْ حَتَّىٰ آتَاهُ نَهْرٌ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعْذِبِ اللَّهُ بِآلِهَامِهِ</p> <p>نہے انکے سے ہرین اور جو کوئی پیرو جاوے گا عذاب کریگا اسکو عذاب درد دینے والا</p>	<p>۲</p>	<p>۲</p>
	<p>لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ</p> <p>ابنہ حقیق سچ دکھلایا اللہ نے رسول اپنے کو خواب ساتھ سچ کے ابنتہ داخل ہو گئے</p> <p>الْمَسْجِدَ الْكَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ</p> <p>مسجد حرام میں اگر چاہا ہے اللہ نے اس سے منڈلاتے ہوئے</p>	<p>۳</p>	<p>۳</p>
	<p>رُؤُسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَكُمْ</p> <p>سروان اپنوں کو اور کترانے ہوئے نہ ڈرتے ہو گے پس جانا اللہ نے جو کچھ</p> <p>تَعَلَّمُوا فَعَمِلُوا مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَعَاوَرُوا</p> <p>نہے پس کی اور سے اسکے یہ نہ تھے نزدیک</p>		

قد سمع الله	المجادلة	۲	يَبِيْنَ يَدَيَّ جُودِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِك خَيْرٌ لَّكُمْ وَطَهْرٌ
			مصلحت کرنے سے کچھ خیرات یہ بہت بہتر ہے واسطے تمہارے اور بہت بالذریعہ
	المجادلة		قَالَ لَمْ يَجِدُوا قَانَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ
			پس اگر نہ پاؤ تم پس عفو بخشنے والا مہربان ہے۔
			وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
			اور فرمان برداری کرو اللہ اور رسول اس کے کی
الصف			وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي
			اور جب وقت تک کہا میں بنی بیٹے مریم کے نے ای بنی اسرائیل حقیق میں
			رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ
			رسول خدا کا ہوں طرف تمہارے ماننے والا واسطے آپس کے کہ آئے میرے ہے
			التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي أَهْلًا
			توریت سے آہد خوشخبری دینے والا ساتھ اس پیغمبر کے کہ آویگا میں مجھے نام اسکا احمد ہے
			هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
			وہی ہے جن نے بھیجا رسول اپنے کو ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے
الصف			لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُوِّرَهُ الْمُشْرِكُونَ
			تو کہ ظاہر کرے اسکو اور دین سارے کے اور اگرچہ ناخوش رکھیں مشرک
	الجمعة		هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
			وہ ہے جن نے بھیجا رسول ان پڑھوں کے پیغمبر انہیں میں سے پڑھتا ہے
			عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
			اور پڑھانے نشانگان اسکی اور پاک کرنا ہے انکو اور سکھاتا ہے انکو کتاب اور حکمت

۲۱ قد سمعنا	الجمعة	۱	وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَآخِرُ
			اور تحقیق تم پہلے اس سے البتہ بیچ گرا ہی ظاہر کے امان لوگوں کو
			مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
			انہیں سے کہ ابھی انہیں ملے ساتھ ان کے اور وہ ہے غالب حکمت والا
=	تغابن	۲	وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
			اور فرمان برداری کرو اللہ کی اور فرمان برداری کرو رسول کی پس اگر پہر جاؤ تم
			فَأَمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۝
			پس ہوا ہے اسکے ہمیں کہ اور پر رسول ہمارے کے ہے پہنچا دینا ظاہر
=	طلاق	۲	قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ
			حقیق انار ہے اللہ نے طرف ہمارے ذکر کہ پیغمبر ہے جو پڑھتا ہے تمہارے اور
			آيَاتِ اللَّهِ مَبِيتٍ يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
			نشانیان اللہ کی بیان کر میں انہیں تو کہ نکالے ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور کام کیے
			الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
			پہچے اندھیروں سے طرف روشنی کے
=	التخيير	۱	وَلِذُنُورِ النَّبِيِّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِ حِدِيثٌ
			اور جو وقت پہنچا کہ کہا نبی نے طرف بعض ایلی اپنی کے ایک بات
			فَلَمَّا نَبَّاتِ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ
			پس جب خبر کر دی اس ایلی نے اس بات کی اور ظاہر کر دیا کہ اللہ نے اور اس کے سنی اور پڑھا
			بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ
			بعضے بات انکی اور نہ پہنچا بعض سے پس جب خبر کی اس ایلی کو اس خبر سے

قد سمع الله	القریم	۲	مَنْ أُنْبَاكَ هَذَا قَالَ تَبَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَوْبَا
			کئے خبر دی تجھ کو یہ کہا خبر کی جھکو صاحب علم خبر دار نے اگر توبہ کرتی ہو تو
			إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا
			طرف خدا کے پس تحقیق کج ہو گئے ہیں دل تمہارے ادا اگر ایک دوسری کی مرد کردگی
			عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ
			اوپر اسکے پس تحقیق اللہ وہ ہے دوست اسکا اور جبریل اور صالح لوگ
			الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرُوا
			مسلمانوں میں سے اور فرشتے پیچھے اسکے مددگار ہیں
تبارک الله	القلم	۱	وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٌ
			اور تحقیق تو اللہ اوپر خلق بڑے کے ہے
	الجن	۲	وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا
			اور جو کوئی نافرمانی کہے اللہ کی اور رسول اسی کی پس جنت کا پہلی آگ ہے دوزخ کی آہش
			فِيهَا أَبَدًا
			جنت اسکے ہمیشہ رہنے والے
	المومل	۱	يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قُمْ أَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا
			اے کپڑا اور پہنے والے کپڑا رہا کرات کو مگر تھوڑا
	"	"	إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
			تحقیق ہم نے بھیجا ہے طرف تمہارے پیغمبر گواہی دینے والا اور تمہارے
	المدثر	۱	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ
			اے کپڑا اور پہنے والے کپڑا ہو اور ڈراؤ لوگوں کو

۱	الضحیٰ	وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَارْضُ ۝
		اور البتہ رشتاب دیویگا تجھکو پروردگار تیرا پس راضی ہوگا
۱	الانشراح	الْمُشْرَحَ لَكَ صَدْرُكَ وَوَضَعْنَا عَنَّا
		کیا نہ کہولہ یا بھنے واسطے تیرے سینہ تیرا اور آثار رکھا بھنے تجھے بوجہ تیرا
		وَزَرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا
		جن نے توڑی تھی پیٹھ تیری اور بلند کیا بھنے واسطے تیرے
		ذِكْرَكَ ۝
		ذکر تیرا +
۱	الکوثر	إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْمَسْ
		تجھیں دی بھنے تجھکو کوثر پس نماز پڑھ واسطے پروردگار اپنے کے اور قربانی کر کہ تجھیں شرم تیرا وہ ہے
		آيَاتُ شَرَفٍ وَفَضَائِلِ أَلْبَيْتِ أَطْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
		آیت
		سپارہ سورت رکوع
۱۸	الطور	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْآفَافِكِ عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ
		تجھیں جو لوگ کہ لائے ہیں طوفان جماعت میں مہین میں سے مت گمان کرو انکو
		تَشْرَأْكُمْ بِرَيْلٍ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
		بڑا واسطے اپنے بلکہ وہ بہتر ہے واسطے تمہارے
۲	احزاب	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ
		اے نبی کہہ سے واسطے بیبیوں اپنے کے

الیہ پیرہ الشورہ	۳	<p>قُلْ لَا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى</p> <p>کہہ نہیں مانگتا میں تم سے اور اس کے کچھ بلا کر دوستی بیچ کرابت کے</p> <p>وَمَنْ يَقْرُفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ بِهَا حَسَنًا اِلَّا اللّٰهُ</p> <p>اور جو کوئی کما دے نیکی زیادہ دیتے ہیں ہم اس کو بیچ اس کے کوئی بھتیق اللہ</p> <p>عَفْوَرٌ شَكُوْرٌ</p> <p>بخشنے والا قدر دان ہے</p>
تبارک الخالد اللہ	۱	<p>يُوفُونَ بِالْاٰثِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ تَشْرِكُ مَسْتَقِيْرًا</p> <p>پورا کرتے ہیں سنت کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ برائی اس کی پہل جان بوالی ہے</p> <p>وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حَبِ مَسْكِيْنًا وَيَتِيْرًا وَاَسِيْرًا</p> <p>اور کھلاتے ہیں کھانا اور محبت اس کی کے فقروں اور یتیموں کو اور قیدوں کو</p> <p>تاختم رکوع ویکھو قرآن مجید</p>
آیات شرف و فضائل اصحاب کیا رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین		
سپارہ سورۃ التوبہ	۳	<p>اَجْعَلْنٰ مَسْقِيَاةَ الْكٰتِبِ وَعِمَارَةَ الْمَسِيْدِ الْحَرَامِ كَمَنْ</p> <p>کیا کیا ہے قننے پانی پلانا ماحجون کا اور خدمت کرنا مسجد حرام کا مانند اس شخص کے</p> <p>اَمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهِدْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ</p> <p>کہ ایمان لانا ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے اور جہاد کیا بیچ راہ اللہ کے</p>

حضرت علم الہیہ کا نشان من

<p>وَأَعْلُوا</p> <p>التوبة ۳</p>	<p>لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ</p> <p>ہنہیں برابر ہوتے نزدیک اللہ کے اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالمین کو</p> <p>الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ</p> <p>جو لوگ کہ ایمان لائے ہیں اور ہجرت کی ہے اور جہاد کیا بیچ راہ اللہ کے</p> <p>بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ ذَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ</p> <p>ساتھ مالوں اپنے کے اور جانوں اپنی کے کہ بڑے ہیں درجہ میں نزدیک اللہ کے اور</p> <p>أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ</p> <p>یہ لوگ وہی ہیں مراد پانے والے بشارت دیتا ہے انکو رب انکا ساتھ مہربانی</p> <p>وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نِعْمٌ مَّقِيمٌ</p> <p>اور رضامندی اور بہشتوں کے واسطے انکے بیچ انکے نعمت ہے پائدار</p> <p>خُلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ</p> <p>ہمیشہ رہینگے بیچ انکے ہمیشہ تحقیق اللہ نزدیک انکے ہے ثواب بڑا</p>
<p>=</p> <p>=</p>	<p>۴</p> <p>إِذْ تَبَرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَمَنَّنْ إِنَّا لَإِلهَ إِلَّا اللَّهُ مَعْنَا فَانزَلَ اللَّهُ وَسَطُ الْمِنِّي أَيْنِ كَمَا تَحْتَقُّقُ اللَّهُ سَاتَهُ سَابِقُ هِيَ أُنَارِي اللَّهُ سَنِي</p> <p>اگر نہ مدد کر دے تم کو پس تحقیق مدد دی ہے اسکو اللہ نے جسوقت نکال دیا تھا اسکو ان لوگوں نے کہ کافر ہوئے دوسرا دو میں کا جسوقت کہ وہ دونوں بیچ غار کے تھے جسوقت کہ کہتا تھا</p> <p>كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَمَنَّنْ إِنَّا لَإِلهَ إِلَّا اللَّهُ مَعْنَا فَانزَلَ اللَّهُ</p> <p>سکینہ علیہ وایتہ مجنود کم تر وہا وجعل کلمۃ</p> <p>شکین اپنی اوپر کے اور قوت دی اسکو ساتھ شکر دین کہ ہنہیں یہاں تھے انکو اور کی بات</p>

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی شان میں

وَعَلِمُوا التَّوْبَةَ	۶	<p>الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلَّمَ اللَّهُ الْحَيَاءَ وَاللَّهُ</p> <p>لوگوں کی کہ کافر ہوئے نبی اور بات الہی وہی ہے بلند اور اللہ</p> <p>عَزِيزٌ حَكِيمٌ</p> <p>غالب حکمت والا ہے</p>
يَعْتَدُونَ	۱۳	<p>وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ</p> <p>اور آگے بڑھ جانے والے پہلے ہجرت کرنے والوں سے اور مدد دینے والوں سے</p> <p>وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضَعْنَا</p> <p>اور وہ لوگ کہ پیروی کرتے ہیں انکی ساتھ نیکی کے راہی ہوا اللہ نے اور راضی ہوئے</p> <p>عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جَرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ</p> <p>اُس سے اور تیار کی ہیں واسطے انکے بہشتیں جتنی ہیں نیچے انکے بہشتیں ہمیشہ رہنے کے</p> <p>فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ</p> <p>پہا انکے ہمیشہ بھی مراد پانا بڑا</p>
يَعْتَدُونَ التَّوْبَةَ		<p>لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ</p> <p>تحقیق ساتھ رحمت کے پہر آیا اللہ اور نبی کے اور وطن چھوڑنے والوں پر اور مدد دینے والوں پر</p> <p>الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ</p> <p>جنہوں نے پیروی کی اسکی بیچ وقت سختی کے پیچھے اسکے کہ نزدیک تھا کہ</p> <p>يَزِيغَ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ لَمَّا تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ</p> <p>بھیج ہو جاوے دل ایک جماعت کے انہیں سے پہر پہر آیا اور انکے تحقیق وہ ساتھ انکے</p> <p>رَءُوفٌ رَّحِيمٌ</p> <p>تحقیق کرنے والا مہربان ہے</p>

۳	النور	۳	وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ تَارِحِيمٌ ۝
			اور قسم نہ کہائیں بڑائی والے تم میں سے
۷	"	"	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
			وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے کہ ایمان لائے ہیں تم میں سے اور کام کیے ایسے
			لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ
			تخلیفہ کریگا انکو بیچ زمین کے جیسا تخلیفہ کیا تھا ان لوگوں کو
			مِنْ قَبْلِهِمْ وَيَمْكُنُّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
			کہ پہلے ان سے تھے اور البتہ ثابت کر دیکھا واسطے انکے دین انکا جو پسند کر دیا ہے اور انکو
			وَلَيَبْدَأَنَّ لَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَمَّا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّي
			اور البتہ بدل دیکھا انکو پیچھے ڈنا دیکھے کے ان کہ عبادت کرنے کی میری
			لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
			ہینن شریک لا دین گے ساتھ میرے کچھ
۲	الجمعة	۲	أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
			پس کیا جو شخص کہ ہو ایمان والا مانند اس شخص کے ہے کہ ہونا فرمان ہینن برابر ہوتے
			أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
			اسے پر جو لوگ کہ ایمان لائے اور کام کیے اچھے پس واسطے انکے بہشتیں میں سے علی
			مَنْزُورًا كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَأَقْبَلْنَا الَّذِينَ نَسُوا مَا كَانُوا
			مہانی سبب سے کہتے کرتے اور اسے پر جو لوگ کہ فاسق ہیں اس جگہ سے انکی کلمہ
۳	الاحزاب	۳	وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا
			اور سو وقت دیکھا ایمان والوں نے جاعظوں کا فرزند کی کو کہا یہ ہے جو وعدہ دیا ہے انکو

یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کام کیے اچھے ہیں ان کو ہم نے تم میں سے اور کام کیے ایسے اور تم میں سے ان لوگوں سے کہ ایمان لائے ہیں تم میں سے اور کام کیے ایسے

فہم
یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کام کیے اچھے ہیں ان کو ہم نے تم میں سے اور کام کیے ایسے اور تم میں سے ان لوگوں سے کہ ایمان لائے ہیں تم میں سے اور کام کیے ایسے

اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادکم
 اتل ما او الاخر ۳

اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادکم
 بعد نے اور رسول اللہ نے اور سچ کہا تھا اللہ نے اور رسول اللہ نے اور نہ زیادہ کیا لگو

الْأَيْمَانُ تَوَسَّلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
 مگر ایمان اور اطاعت کرنا بعض مسلمانوں میں سے وہ مرد ہیں کہ سچ کہا انہوں نے

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهُ مَخْرَجًا
 اُس چیز کو کہ عہد باندھا تھا اللہ سے اور اُس کے پس بعض انہوں سے وہ ہے کہ پورا کر چکا کام اپنا اور بعض انہوں سے

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهُ مَخْرَجًا
 وہ ہے کہ انتظار کرتا ہے اور نہیں بدل والا انہوں نے کچھ بدل انا تو کہ بدل دے اللہ

الصَّادِقِينَ يُصَدِّقُهُمْ وَيَعِزِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنِ شَاءَ
 چوں کہ بے سچانکے اور ضاب کرے منافقوں کو اگر چاہے

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا رَّحِيمًا
 یا تو بہ کرے اور اُس کے تحقیق اللہ سے بخشنے والا مہربان

أَمْ مَنْ هُوَ قَائِمٌ أَنْاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزَنُ
 کیا جو شخص کہ وہ کرتا ہے بندگی وقت رات کے سجدے میں اور کھڑے ڈرتا ہے

الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
 آخرت سے اور امید رکھتا ہے عتق پر وہ کار لینے کی

أَفَمَنْ شَرَّ اللَّهُ صِدْرَةً لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ
 کیا جو شخص کہ کھولا ہے اللہ نے سینہ اُس کا واسطے اسلام کے پس وہ اور پورے ہے

مَنْ رِيَاءً
 یہ وہ کار لینے سے

وَمَلِكٌ
 اور سلطان
 اور سلطان
 اور سلطان

ارشاد ابو بکر صدیق و عو ظاہر بانی مدینہ

وَالَّذِينَ يَخْتَابُونَ لِبِئْرِنَا أَلْفَا حِشًّا وَ

وہ لوگ کہ بیچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بیجا بیوں سے اور

إِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا

جس وقت کہ غصہ ہوتے ہیں وہ ہی بخشتے ہیں اور وہ لوگ کہ قبول کیا انہوں نے

لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

و اسی پر در دگار اپنے کے اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور کلام اذکار مشورہ ہے درمیان ان کے

وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يَفْقَهُوا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْ

اور اُس چیز سے کہ دی ہے ہم نے انکو خرچ کرتے ہیں اور واسطے اُن لوگوں کہ جب پہنچتی ہے انکو چڑھائی

هُم يَنْصَرِفُونَ

وہ بدلا لیتے ہیں

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ

اور حکم کیا ہم نے آدمی کو ساتھ ان باپ اپنے کے احسان کرنا اُٹھاتی ہے انکو

أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ

ان اسکی تکلیف سے اور جنتی ہے انکو تکلیف سے اور حمل اسکا اور دودھ چھڑانا اسکا

ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ

تیس مہینہ یہاں تک کہ پہنچا اپنی جوانی کو اور پہنچا چالیس برس کو

سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

کہا اسی رب میرے توفیق دے بھلو کہ شکرون میں نعمت تیری کا

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

وہ انعام کی ہے تو نے اوپر میرے اور اوپر ان باپ میرے کے اور کہ عمل کو نیک

خبر کہ وہ تیرے جنتی ہے انکو چھڑانا اسکا

الشورہ ۲۵

اليہ يورد

۲

انعام

۲۹

<p>۲۴</p> <p>الافتقار</p>	<p>۲</p>	<p>تَرْضَاهُ وَأَصْلِي لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنْ نَبَتْ إِلَيْكَ</p> <p>جو پسند کرے تو اسکو اور اصل کو دراصلے سے بچو اور لا دہری کے تحقیق میں نے توبہ کی طرف تیرے</p> <p>وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○</p> <p>اور تحقیق میں مسلمانوں میں سے ہوں</p>
<p>۲۵</p> <p>الافتقار</p>	<p>۳</p>	<p>لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ</p> <p>البتہ تحقیق راضی ہوا اللہ مسلمانوں سے</p> <p>حسوت کو بیعت کرتے تھے مجھے</p> <p>تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّلِيمَةَ</p> <p>پہچے درخت کے پس جانا جو کچھ بچہ دونوں لنگے کے تھاپس آڑی لنگین</p> <p>عَلَيْهِمْ وَأَتَاهُمُ فَتَحَا قُرَيْبًا وَمَعَانٍ كَثِيرَةً يَأْخُذُهَا</p> <p>اوپر اُنکے اور قواب دیا اُنکو فتح نزدیک اور زمین بہت کو پونگے اسکو</p> <p>وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ○</p> <p>اور ہے اللہ غالب حکمت والا</p>
<p>۲۶</p> <p>الافتقار</p>	<p>۴</p>	<p>مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ</p> <p>محمد رسول اللہ کا ہے اور جو لوگ کے ساتھ اُنکے ہیں سخت ہیں اوپر کفار کے</p> <p>رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا</p> <p>رحمہل ہیں درمیان اپنے دیکھتا ہے تو اُنکو رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے پابستہ میں فضل</p> <p>مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ</p> <p>خدا کا اور رضامندی اوسکی نشانہ اُنکی بیچ مویوں اُنکے ہے از سجدہ کے سے</p> <p>ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ</p> <p>یہی صفت اُنکی بیچ تورات کے اور صفت اُنکی بیچ انجیل کے</p>

<p>۲۷ الفتح</p>	<p>۳</p>	<p>كُرِّرَ اَخْرَجَ شَطَا فَاَزْرَهُ فَاسْتَعْلَفَ فَاسْتَوْسَدَ جیسے کہیں نکلے ہوئے اپنی پس نوی کرے اسکو پس موٹی پڑ جاوے پس کھڑی ہو جاوے عَلٰى سَوْقِهِ لِعَجَبِ الرَّاعِ لِيَغِيْظَهُمُ الْكَفَارَةَ وَعَدَّ اللهُ اور پڑ اپنی کے خوش لگتی ہیں کہیں کرنے والوں کو تو کہ غصہ میں لاد اللہ سبب ان مسلمانوں الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاجْرٌ عَظِيْمٌ ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور کام کیے اچھے انہیں سے بخشش اور ثواب بڑا</p>
<p>۲۸ قد سمع الله الحشر</p>	<p>۱</p>	<p>وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءَ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَحَبِيْبُوْنَ اور واسطے ان لوگوں کے کہ جگہ پکڑی ہے گھر ہجرت کے میں یعنی پیمان اور ایمان میں پہلے اُنسے دست مِنْ هَاجِرِ الْيَمِمْ وَلَا يَجِدُنَ فِيْ صُدُوْقِهِمْ حَاجَةً جو وطن چھوڑنے میں طرف اُنکے اور نہیں پاتے بیچ دلوں لینے کے بخش مِمَّا اَوْتَوْا وَيُوْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ مِنْ حَصَاةِ اس چیز سے کہ دیے جاوےں مہاجرین اور اختیار کرتے ہیں اور جانوں لینے کے اگرچہ ہوں گوتنگی وَمَنْ يُّوقِ نَفْسَهُ نَفْسِيْهِ فَاَوْلِيْكَ هُمُ الْمَفْلُوْحُوْنَ اور جو کوئی بچا یا جاوے پھیلی جان اپنی کی پس یہ لوگ وہی ہیں فلاح پانے والے وَالَّذِيْنَ جَاؤْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا اور واسطے ان لوگوں کے کہ آئے ہیں اُنکے کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں بخش ہمکو وَلَا اِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ اور بھائیوں ہمارے کو وہ جو آگے لائے ہم سے ایمان اور مت کر فِيْ قُلُوْبِنَا غُلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اَنْتَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ذبح دلوں ہمارے کے بُرائی واسطے ان لوگوں کے ایمان لائے اے رب ہمارے تھیں تو ہے شفقت کرنے والا</p>

کے کاروں کو وہ کھلی اسنے
 کچھ نہیں اور کور

۳۰ عم	اللیل	۱	وَسَيَجْزِيهَا اللَّهُ الَّذِي يُولِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اور اللہ ایک طرف کیا جاوے گا اس سے بڑا پرہیزگار جو وہ دیتا ہے مال اپنا پاک ہوتا ہے
			وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ جِزَاءٍ اور نہیں واسطے کسی کے نزدیک اور کسی نعمت ہے کہ بدلا دیا جاوے گا
			إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَوْنَ مگر واسطے چاہنے رضامندی پروردگار اپنے بلند کے اور اللہ شتاب راضی ہوگا

احکام دین و ایمان و استقامت

سیارہ	سورت	رکوع	آیات
۱	البقرہ	۱۶	قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ کہو ایمان لائے ہم سارے اللہ کے اور جو کچھ ہماری گئی طرف ہمارے اور جو کچھ ہماری گئی
			إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ طرف ابراہیم کے اور اسمعیل کے اور اسحاق کے یعقوب کے
			وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ اور اولاد اسکی کے اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ کے عیسیٰ کے
			وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفِيقُ اور جو کچھ دیے گئے پیغمبروں کو پروردگار اپنے سے نہیں جدائی دالے ہم
			بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَبَيْنَ لَهُمْ مَّسَلُوكٌ درمیان کسی کے انہیں سے اور ہم واسطے اسکے مطیع ہیں

وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِلَّهِ

اور لیکن وہ ایمان لایا ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے اور فرشتوں کے

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

اور کتاب کے اور پیغمبروں کے اور دیا مال اور محبت اسکی کے قرابت والوں کو

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَنْزَلَ السَّبِيلَ وَالسَّابِقِينَ فِي

اور یتیموں کو اور فقیروں کو اور سافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور پہلے

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

چھٹانے والوں کے اور قائم کیا نماز کو اور دیا زکوٰۃ کو اور پورا کرنے والے

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

عہد اپنے کو جب عہد کریں اور صبر کرنے والے بیچ فقر کے

وَالضَّرَّاءِ وَجِدِ الْبَأْسَ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

اور بیماری کے اور وقت لڑائی کے یہی ہیں جنہوں نے سچ بولا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

اور یہ لوگ وہی ہیں پرہیزگار

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً

ای لوگو کہ ایمان لائے ہو داخل ہو بیچ اسلام کے سارے

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اللہ دوست واری آن لوگو کا جو ایمان لائی اور نکالتا ہی انکو اندھیروں سے طرف روشنی کے

مِنَ السُّلُوبِ أَنْزَلَ لِيَمِينِكَ وَقَالَ اللَّهُ مُلْكُكُمْ وَلَكُمْ

ایمان لایا پیغمبر شاہچیز کی کتاب کی ہی طرف اسکے پروردگار اسکے سے اور ایمان لے مسلمان ہر ایک ایمان لایا

سینقول البقر ۲۲

۲۲

تلاط لیس

اور یہ لوگ وہی ہیں پرہیزگار

تلك النقرة	۴۰ لا تفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا و
	<p>نہیں جلائی ڈالتے ہم درمیان کیسے پیغمبروں اُسکے سے اور کہا انہوں نے سنا ہم نے اور</p> <p>۴۱ اطعنا عفرانک ربنا وایک المصدیر</p> <p>مانہنے بخشش مانگتے ہیں ہم تیری اسے رب ہمارا اور طرف تیرے ہے پرانا</p>
=	<p>۴۲ ان الدین عند الله الاسلام</p> <p>تختیق دین نزدیک اللہ کے اسلام ہے</p>
=	<p>۴۳ قل انا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابره</p> <p>کہہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے ادا اچھڑنے کے کائناری گئی اور ہمارا اچھڑنے کے کائناری گئی اور ہمارے</p>
=	<p>۴۴ واسمعیل واسحق ويعقوب والاسباط وما</p> <p>اور اسماعیل کے داسحاق کے یعقوب کے اور اولاد اُسکے کے اور جو</p>
=	<p>۴۵ اونی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من رهم</p> <p>دیے گئے موسیٰ عیسیٰ اور سب نبیوں کو</p>
=	<p>۴۶ لا تفرق بین احد منہم وحن مسلمون</p> <p>پروردگار اُنکے سے نہیں جلائی ڈالتے ہیں درمیان کیسے ایمان سے اور ہم واسطے کیسے فرما بنو اور</p>
=	<p>۴۷ ومن یتبع غیر الاسلام دینا فان یقبل منه</p> <p>اور جو کوئی چاہے سوا اسلام کے دین پس ہرگز نہ قبول کیا جاوے گا اُس سے</p>
لینا	<p>۴۸ وھو فی الآخرة من الخیرین</p> <p>اور وہ بہتر آخرت کے لوگ ہیں انہوں سے ہے</p> <p>۴۹ قل صدق الله فاتبوا ملة ابراهيم حنیفاً</p> <p>کہا جاوے اللہ نے پس پیروی کرو دین ابراہیم حنیف کی</p>

وَمِنْ أَحْسَنِ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ

لوگوں میں سے بہتر دین میں سے اور اس شخص سے کہ مطہم کر کے منہ اپنا واسطے اللہ کے اور وہ

حَسَنٌ وَابْتِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخِذِ اللَّهَ

بیگی کر نوا لاہو اور پروردی کر کے دین ابراہیم حنیف کی اور کبر الہدے

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ○

ابراہیم کو دوست

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور رسول اس کے اور کتاب کے

الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ رَسُولَهُ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلِ

جو اتاری ہے اور رسول اپنے کے اور کتاب کی جو اتاری ہے پہلے اس کے

الْيَوْمِ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْتًا عَلَيْكُمْ لَعَنِي وَرَضِيْتُ

آج کے دن پورا کیا میں نے واسطے تمہارے دین تمہارا اور پوری کی اور تمہارا نعمت اپنی

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

واسطے تمہارے اسلام کو دین

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

ہیں اور ان لوگوں کے کیا جان لائے اور کام کی اچھے گناہ حج اس کے

طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمْ يُغْنَوْا

کہ کیا یا انہوں نے جس وقت کہ پر ہز گاری کریں اور ایمان لادیں اور کام کریں اچھے ہر ہز گاری

أَمِنُوا لَمْ يُغْنَوْا وَاحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسِنِينَ ○

ایمان لادیں ہر ہز گاری کریں اور احسان کریں اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو

العصاة النساء ۱۸

۲۰ = =

لا ینحی اللہ ما آتاه ۱

وإذا سمعوا ۱۲

<p>واذ سمعوا النعام</p>	<p>۹</p>	<p>قُلْ أَهْدَىٰ لِلَّهِ هُوَ هَدَىٰ وَأَمْرًا لِلنَّبِيِّ لِي وَالْعِبَادِ</p> <p>کہہ تحقیق ہدایت اللہ کی وہی ہے ہدایت اور حکم کئے گئے ہیں ہم پر کہ تمہیں ہر دین ہم پر</p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>الَّذِي وَجَّهَ وَجْهَ لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ</p> <p>تحقیق میں نے توجہ کیا ہونہ اپنے کو واسطے اسکے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو</p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ</p> <p>توحید کرنا لاہوک اور نہیں میں شریک کرنے والوں میں</p>
<p>ولوانسا</p>	<p>۲۰</p>	<p>يَوْمَ رَأَيْتِي بَعْضُ آيَاتِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا</p> <p>جس دن آویںگی بعض نشانیاں پروردگار تیرے کی نہ نفع دیکھا کسی ہی کو</p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>إِيمَانًا لَوْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ أُولِي خَيْرٍ</p> <p>ایمان اسکا کہ نہ تھا ایمان لایا پہلے اس سے یا نہ کیا تھا صحیح ایمان اپنے کے پہلانی کو</p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>قُلْ إِنِّي هَدَىٰ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا</p> <p>کہہ تحقیق ہدایت کیا مجھ کو رب میرے نے طرف راہ سیدھی کے دین ہتوار</p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>مِثْلَ آبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ</p> <p>دین ابراہیم حنیف کا اور نہ تھا شرک لانے والوں سے</p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>قُلْ إِن صَلَائِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ</p> <p>کہہ تحقیق نماز میری اور سب عبادتیں میری اور زندگی میری اور موت میری واسطے اللہ پروردگار</p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ</p> <p>نہیں شریک واسطے اسکے اور ساتھ اسکے حکم کیا گیا ہوں اور میں اول مسلمانوں کا ہوں</p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>إِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ</p> <p>پیروی کرو جو نازل کیا ہے تم پر سے طرف تمہاری پروردگار تمہاری سے</p>

وما من قبلة هود	۱۰	فَأَسْتَقِرُّكُمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ
ربنا	۱۳	مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ أَلَمْ يَكِرْهُ وَقِيلَ جو کوئی کفر کے ساتھ اللہ کے پیچھے ایمان اپنے کے مگر جو شخص کہ زبردستی کیا کیا اور دل اسکا مطمئن بنا لایمان و لکن من شرح بالكفر آرام میں ہے ساتھ ایمان کے ولیکن جو شخص کہ کہیں گیا ساتھ کفر کے صدرا فاعلیم غضب من الله وهم عدو عظیم سینہ اسکا پس اوپر اُنکے ہے غصہ اللہ کا اور واسطے اُنکے ہے عذاب بڑا
اقرب الابیام	۷	فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ پس جو کوئی کام کرے اچھے اور وہ ایمان والا ہو پس نہیں ناقدر دانی لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ واسطے سہی اُسکے کے اور محقق ہم واسطے اُسکے لکھنے والے ہیں
انلما وج العنکبوت	۵	وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ اور کہو ایمان لائے ہم ساتھ اس چیز کے کہ اتاری گئی ہے طرف ہمارا اور اتاری گئی ہے طرف تمہارا إِنَّا وَاللَّهُمُّ وَاحِدٌ وَحَسَنٌ لَهُ مَسَامِينُ معبود ہمارا اور معبود تمہارا ایک ہے اور ہم واسطے اُسکے مطیع ہیں
الروم	۲	فَأَقْرِبْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ پس سید پاکر موہنہ اپنا واسطے عبادت کے اور دین ابراہیم کے موکر لازم پکڑ پیدا میں خدا کی کہ جو سدا کا النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ بگوگو اور پورا اسکے نہیں بدلتا ہے واسطے پیدا میں خدا کے یہی ہے دین درست

اتلما	السرہ ۵	<p>فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ</p> <p>پس سیدھا کر سونہہ اپنا واسطے دین درست کے پہلے اس سے کہ آوے اُنکے پاس</p>
=	تقمان ۳	<p>يَوْمَ لَا كُفْرَ دَلَّةٍ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّ عُورًا</p> <p>وہ دن کہ نہیں پیر جا آسکو اللہ کی طرف سے آمدن مشرق ہر جہانگے</p>
=	الجمعة ۳	<p>وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ</p> <p>اور جو کوئی تسلیم کرے سونہہ اپنا طرف خدا کے اور وہ نیکی کرنے والی ہے</p>
=	الجمعة ۳	<p>فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ</p> <p>پس جھٹکتی حکم پکڑا اُس نے کڑی مضبوط</p>
=	الجمعة ۳	<p>قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا</p> <p>کہہ کہ دن فتح کے نہیں فائدہ دیکھا اُنکو جو کافر ہوئے ایمان اُنکا اور نہ وہ</p>
=	الزمر ۱	<p>يَنْظُرُونَ</p> <p>ڈہیل رہے جاویں گے</p>
=	الزمر ۱	<p>فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ الدِّينَ الْخَالِصُ</p> <p>پس بندگی کر اللہ کو خالص کر اور واسطے اُسکے عبادت کو خبردار ہو واسطے اللہ کے ہی عبادت خالص</p>
=	=	<p>قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ</p> <p>کہہ جھٹکتی میں حکم کیا گیا ہوں یہ کہ عبادت کروں اللہ کی خالص کر اور واسطے اُسکے عبادت</p>
فرانظروا	=	<p>وَإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُبَيِّنَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْ أُبَيِّنَ لَكُمْ دِينَكُمْ</p> <p>اور جو مجھے کہہ دیا ہے کہ بتاؤں تم کو دین تم کو اور بتاؤں تم کو دین تم کو</p>
=	=	<p>فَلَا تَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ</p> <p>پھر نہ متلو کے جاوے اور پیروی کرو بہتر اس حد تک کہ تم کو لکھی ہے صرف تم کو بتاؤں تم کو</p>

<p>مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ</p>		
<p>پہلے اس سے کہ آوے مگر عذاب ناگہان اور تم نہیں جانتے ہو</p>		
<p>فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا آوَا بِأَسْنَاهُ اللَّهُ</p>	۹	المؤمن
<p>پس نہ تھا کفیع کرتا انکو ایمان انکا جب دیکھا انہوں نے عذاب ہمارا عادت اسکی</p>		
<p>الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَا الْكَافِرُونَ</p>		
<p>جو تحقیق گزر گئی بیچ بندوں او سیکے اور زیان پایا اس جگہ کافروں سے</p>		
<p>إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ</p>	۲۲	حم السجدة
<p>تحقیق ان لوگوں نے کہہا انہوں نے پروردگار ہمارا اللہ ہے پھر ثابت رہے اور ایسکے اترتے ہیں ان پر</p>		
<p>الْمَلَائِكَةُ الْأَمْتَانِ وَأَوَّلُ نَزْوَاوَابِ الْجَنَّةِ</p>		
<p>فرشتے یعنی وقت ہو سکتے یہ کمت ڈرو اور ست عم کہاؤ اور خوشخبری سنو اس بہشت کی</p>		
<p>الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ خَيْرٌ أُولَئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا</p>		
<p>جو تھے تم وعدہ دیے جاتے ہم میں دوست تمہارے بیچ زندگانی دینکے</p>		
<p>وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَلَكُمْ</p>		
<p>اور بیچ آخرت کے اور واسطے تمہارے ہے بیچ اسکے جو کچھ کہ چاہیں گی تمہارے اور وہ سب تمہارے</p>		
<p>فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَلًا مِنْ عَفْوِ رَبِّكَ حَسِيمًا</p>		
<p>بیچ اسکے جو کچھ کہ مانگو ہماری ہے بخشنے واسطے مہربان سے</p>		
<p>شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ</p>	۲	اليه يرد الشوك
<p>مقرر کیا واسطے تمہارے دین سے وہ چیز کہ حکم کیا تھا ساتھ اسکے نوم کو اور جو</p>		
<p>أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا</p>		
<p>دسی کی کہنے طرف تیرے اور جو حکم کیا تھا ہم نے ساتھ اسکے ابراہیم کو اور</p>		

<p>۲۵ الیہ یورد السورۃ</p>	<p>۲</p>	<p>مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ</p>
<p>=</p>	<p>=</p>	<p>موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم رکھو دین کو یعنی توحید کو اور مت متفرق ہو بیچ اسکے</p>
<p>۲۶ الحق</p>	<p>۲</p>	<p>قُلْ آمَنَّا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ</p>
<p>۲۶ الحق</p>	<p>۲</p>	<p>إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ</p>
<p>۲۶ الحق</p>	<p>۱</p>	<p>خَالِدِينَ فِيهَا جزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝</p>
<p>۲۶ الحق</p>	<p>۱</p>	<p>وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا</p>
<p>۲۶ الحق</p>	<p>۲</p>	<p>قَالَتْ لَأَكْفُرَنَّ مِنَ الَّذِينَ تَبِعُوا وَكَرِهُوا وَإِنِّي أَنزِلُ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فَلْيُحْكُمُوا بَيْنَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِمَّا نَزَّلْنَا لِقَوْمِكُمْ أَلا تَعْقِلُونَ ۝</p>
<p>۲۶ الحق</p>	<p>۲</p>	<p>وَمَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ</p>
<p>۲۶ الحق</p>	<p>۲</p>	<p>وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>
<p>۲۶ الحق</p>	<p>۲</p>	<p>اور رسول اسکے کی نہیں کم دیگا تمکو عملوں تمہاروں میں سے کچھ تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے</p>

أَنَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَوْمٌ

سوائے ایک نہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور رسول کے ساتھ

بِرِّتَابُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

شک لائے اور جہاد کیا ساتھ مالوں اپنے کے اور جانوں اپنی کے بیچ راہ اللہ کے

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَتَّبِعُ

یہ لوگ وہ ہیں جو کہہ کیا معلوم کر داتے ہو تم خدا کو دین اپنا

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں کے ہے اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے اور اللہ ساتھ ہر

شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ يَمِينُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا

چیز کے جاننے والا ہے احسان کرتے ہیں اور تیرے یہ کہ مسلمان ہوئے کہہ کہ مت

تَتَوَاعَلُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ مِّنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ

احسان رکھو اور میرے مسلمان ہونے اپنے کا بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے اور تمہارے بہرہ کہ

لِلْإِيمَانِ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

طرف ایمان کے اگر ہو تم سے

فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا

پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور رسول کے اور اس نور کے کہ نازل کیا ہے

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

کہہ وہی ہے رحمان ایمان لائے ہم ساتھ اسکے اور اذیر اسکے توکل کیا ہے

احکام ممانعت شرک

۲۸
قد سمع الله
التغابن

۹
تبرک الله
الملك

قال المدا ۹	احرف	۲۴	أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ○ کیا شریک لاتے ہیں اسپر کہہ کہ نہیں بنا کرتی ہے کچھ اور وہ پیدا کنی جاتے ہیں
واعلموا ۱۰	توبہ	۲	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ای لوگو جو ایمان لائی ہو سوائے اسکے نہیں کہ مشرک ناپاک ہیں پس نزدیک آئیں
			المسجد الحرام بعد عامہم ہذا وإن خفتم عیدانہ مسجد حرام کے پیچھے برس اونیکے جو یہ ہے اور اگر ڈرو تم فقرے
سبحان اللہ	بہ اسرائیل	۳۰۲	فَسَوْفَ يَغْنِبُكَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ پس البتہ دو لٹمنہ کرے گا تمکو اللہ فضل اپنے سے اگر چاہے گا تمہیں اللہ جاننے والا حکمت والا ہے
سبحان اللہ	=	۲	وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَدْعُودًا مت مقرر کر ساتھ اللہ کے معبود اور پس بیہوش رہیگا تو مذمت کیا گیا ہلاک میں سوچنا
سبحان اللہ	=	۲	وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ اور حکم کیا پروردگار تیرے لئے یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اوسیکو
سبحان اللہ	کھف	۵	وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَدْعُودًا ○ اور مت مقرر کر ساتھ اللہ کے معبود اور پس ڈالا جاویگا، سچ دوزخ کے ملامت کیا ہوا ہے
سبحان اللہ	=	۱۲	لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ○ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہے اللہ رب میرا اور نہیں شریک لائین ساتھ رب اپنے کے کسیکو
سبحان اللہ	=	۱۲	وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّي أَحَدًا ○ اور نہ شریک لاوے ساتھ عبادت پروردگار اپنے کے کسیکو
سبحان اللہ	=	۲	فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ پس بچنے رہو ناپاکی تھون کی سے اور بچنے رہو بولنے جھوٹ کے سے

<p>۱۸ اقتراب اللغات البحر</p>	<p>۲</p>	<p>الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن شرك جھوٹ کے سے توحید کرنے والے اللہ کو نہ شریک لانے والے ساتھ اسکے اور جو کوئی شریک لاؤ بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الابرار وهو ساتھ اللہ کے پس گویا گر پڑا آسمان سے پس آپک لیجاتے ہیں اسکو جانور یا پھینک پتی به الری فی مکان سبیتی ○ سے اسکو باد پہنچ مکان دور کے</p>
<p>۱۹ قال الذین فکون</p>	<p>۲</p>	<p>اریت من اتخذ الہة ہوہ افانت تکون کیا دیکھا تو نے اس شخص کو کہ پڑا اسنے معبود اپنا خواہش اپنی کو کیا پس ہوتا ہے تو اوپر علیہ وکیلاً ○ اسکے داروغہ</p>
<p>۲۰ من خلق قصص</p>	<p>۹</p>	<p>ولا تدع مع اللہ الہا اخر الا الہ هو کل شی اور مت پکار ساتھ اللہ کے معبود اور کو نہیں کوئی معبود مگر وہ ہر چیز ہالک الا وجہہ لہ احکم وایہ ترجعون ○ ہلاک ہو نیوالی ہے مگر ذات اولی واسطے اسیکے ہے حکم اور طرف اسکے بہرے جاؤ گے</p>
<p>۲۱ انما اولیٰ لقمن</p>	<p>۲</p>	<p>لا تشرک باللہ ان الشریک لظلم عظیم ○ مت شریک لا ساتھ اللہ کے تحقیق شریک ابستہ ظلم ہے بڑا</p>
<p>۲۲ فینظرون السجدة</p>	<p>۵</p>	<p>کانتسجد الشمس والقمر مت سجدہ کر واسطے سورج کے اور نہ واسطے چاند کے</p>
<p>۲۳ قال فاطمہ اللہ</p>	<p>۳</p>	<p>ولا تجعلوا مع اللہ الہا اخرہ اور مت مقرر کرو ساتھ اللہ کے معبود دوسرا</p>

احکام قضا و قدر

سپتہ	سورت	رکوع	آیات
تلك اللول ^۳	العنک	۳	<p>قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَ</p> <p>کہہ یا اللہ مالک ملک کے دیتا ہے تو ملک جسکو چاہے اور</p>
			<p>تَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَ تَعْرِضُ مَنْ تَشَاءُ وَ تَدُلُّ مَنْ</p> <p>چاہیں لیتا ہے ملک جس سے چاہے اور عزت دیتا ہے جسکو چاہے اور ذلت دیتا ہے</p>
			<p>تَشَاءُ يُبْدِي لِرَجُلٍ خَيْرَ أَمْرٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُوَلِّجُ الْكَيْلَ</p> <p>جسکو چاہے بچہ ہاتھ تیرے کے ہے خبر چھین تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے بیٹھاتا ہے رات کو</p>
			<p>فِي النَّهَارِ وَ تُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْكَيْلِ وَ تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ</p> <p>بچہ دن کے اور بیٹھاتا ہے دن کو بچہ رات کے اور نکالتا ہے زندہ کو</p>
			<p>الْمَيِّتِ وَ تَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ</p> <p>مردے سے نکالتا ہے مرد کو زندہ سے اور رزق دیتا ہے جسکو چاہے بے شمار</p>
تلك اللول ^۳	العنک		<p>قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ</p> <p>کہہ تحقیق فضل بچہ ہاتھ اللہ کے ہے دیتا ہے جسکو چاہے</p>
تذمتنا ^۴	=	۱۳	<p>يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ لِيَعَذِّبَ مَنْ يَشَاءُ وَ</p> <p>بخشتا ہے جسکو چاہے اور عذاب کرتا ہے جسکو چاہے</p>
			<p>تِلْكَ الْآيَاتُ الْمُرْسَلَاتُ وَالْحَاكِمَاتُ لِلنَّاسِ</p> <p>یہ دن باری باری سے پہنچتے ہیں ہم انکو درمیان لوگوں کے</p>

لَنْ تَنَالُوا	الْعَمَلِ	۱۵	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ مَوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا
			اور نہیں لایق ہے واسطے کسی جان کے کہ مر جاوے مگر ساتھ حکم اللہ کے لکھ رکھا ہے
			مَوْجِبًا لِمَنْ يُرِيدُ أَجْرًا مِمَّنْ يَدْرُؤُا ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدْ
			وقت مقرر کر اور جو کوئی چاہے تو اب دینا دینے ہم ایسا کہیں اور جو کوئی چاہے
			ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتُهُ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ ○
			تو اب آخرت کا دینے ہم اسکو اور ہمیں سے اور شتاب جزا دینے ہم شکر گزاروں کو
			قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ مِنْكُمْ
			کہہ اگر موتے تم بیچ گھر دن اپنے کے آنتہ نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ کہ لکھا گیا ہے اور اپنے مارا جانا
لَنْ تَنَالُوا	الْعَمَلِ	۱۷	إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ
			اگر مدد کرے تمہاری اللہ میں نہیں کوئی غالب ایسا لاؤ گی تمہارا اور اگر چھوڑ دے تمکو
			فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ط
			پس کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری پیچھے اسکے
وَأَذِيعُوا	النَّامِ	۳	مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَى
			جسکو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے اسکو اور جسکو چاہتا ہے کرتا ہے اسکو اور
			صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○
			راہ سیدھی کے
وَأَعْلُوا	تَوْبَةَ	۷	قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا آلٌ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
			کہہ کہ ہرگز نہ پہنچے گا ہمارے گرجو کچھ لکھا اللہ نے واسطے ہمارے وہی ہے کارساز ہمارا
			وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○
			اللہ اور اللہ کے پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے

يعتذر يونس	۵	<p>لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○</p> <p>دو اسطے ہر امت کے وقت مقرر ہے جب آتا ہے وقت انکا پس نہیں پیچھے رہتے</p> <p>ایک ساعت اور نہ آگے بڑھتے ہیں</p>
يعتذر =	۱۰	<p>وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○</p> <p>اور اگر چاہتا پروردگار تیرا البتہ ایمان لاتے جو کوئی۔ سچ زمین کے ہر سارے</p> <p>ایا پس تو زبردستی کرتا ہے لوگوں کو یہاں تک کہ ہو جاوین مسلمان اور نہیں ممکن</p> <p>لِنَفْسٍ أَنْ تَوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ○</p> <p>کسی جی کو یہ کہ ایمان لاوے مگر ساتھ حکم خدا کے اور کردیتا ہے پلیدی اور</p> <p>ان لوگوں کے کہ نہیں سمجھتے</p>
وما يذكر هود	۹	<p>إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ بِمَا يَرِيدُ ○</p> <p>تجھن پروردگار تیرا کہ نیوا لہے جو ارادہ کرتا ہے</p>
=	۱۰	<p>وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا نَزَلْنَا بِمُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ طَوْلِنَا لِكَ خَلْقِهِ ○</p> <p>اور اگر چاہتا پروردگار تیرا البتہ کرتا لوگوں کو امت ایک اور ہمیش رہینگے</p> <p>اختلاف کرنے والے مگر خکو رحم کیا پروردگار ترے نے اور اسطے کے پیدا کیا ہوا کو</p> <p>وَمَثَلِ قَوْمٍ لَكَ لَأَمَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○</p> <p>اور پوری ہوئی بات پروردگار تیرا البتہ بہرہ زندگادوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے</p>

<p>وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ</p>	<p>۳</p>	<p>یوسف</p>	<p>وَأَمْخِطُ</p>
<p>اللہ مد غالب ہے اور کام اپنے کے دیکھ بہت لوگ نہیں جانتے</p>			
<p>تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ كُنْهَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ</p>	<p>۹</p>	<p>=</p>	<p>وَأَبَىٰ</p>
<p>بلند کرتے ہیں ہم درجوں میں جسکو چاہے ہیں اور اوپر ہر جاننے والے کے جاننے والا ہے</p>			
<p>إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغْيِرَ مَا بَانَ لِنَفْسِهِ</p>	<p>۲</p>	<p>العد</p>	<p>=</p>
<p>جیتق اللہ نہیں بدلتا ہے اس معاشرت کو ساتھ کسی قوم کے ہی یہاں تک کہ بدل دالین وہ جو کچھ نہ</p>			
<p>وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَهُمْ أَمْرٌ</p>			
<p>اور جو وقت ارادہ کرتا ہے خدا ساتھ کسی قوم کے بُرائی کا پس نہیں پہیرنا واسطے اسکے اور نہیں</p>			
<p>مِّنْ دُونِ مَن وَآلٍ</p>			
<p>سوائے اسکے کوئی کارساز</p>			
<p>اللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا</p>	<p>۳</p>	<p>=</p>	<p>=</p>
<p>اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو واسطے جسے چاہے اور تمگ کرتا ہے اور خوش ہوئے یہ</p>			
<p>بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لَهْتًا</p>			
<p>ساتھ زندگانی دنیا کے اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی بیج آخرت کے گرا سبب ہوگا</p>			
<p>وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن</p>	<p>۴</p>	<p>=</p>	<p>=</p>
<p>اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ کافر ہوئے کیوں نہ آتاری گئی اور اسکے نشانی</p>			
<p>رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ</p>			
<p>رب اسکے سے کہہ جیتق اللہ گراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے طرف اپنے</p>			
<p>مَنْ أَنَابَ</p>			
<p>اس شخص کو کہ رجوع کرتا ہے</p>			

وما ادری الرعد ۶	لِكُلِّ جَلِّ كِتَابٍ عِوَا اللَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُؤْتِيهِمْ مِمَّا يَشَاءُونَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ		
۷	۱	۱	فیضیل اللہ من یشاء ویهدی من یشاء ط
۱۲	۲	۲	وإن من شیء الا عندنا خزائنا وما ننزله الا بقدر معلوم
۱۳	۸	۸	وکیواخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من ذنوبہم
۱۴	۲	۲	وکل انسان الزمانہ طیرۃ فی عنقہ ط
۱۵	۳	۳	ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ط
۱۶	۹	۹	قل کل عمل علی شاکتہ فربکم اعلم بما تنھون
۱۷	۲	۲	من ینہد اللہ فہو المہدی ومن ینزل اللہ فہو الساقط

۱۶	قال الرقل	مریم	۲	إِذَا قَضَيْتُمْ أَمْرًا فَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝
				جب مقرر کرتا ہے کچھ کام پس اس کے کہتا ہے ہو پس ہو جاتا ہے
۱۷	اقتراب	انبیاء	۵	فَلَنَأْيُنَّاكَ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝
				کہا بنے اسے آگ ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی اور ابراہیم کے
۱۸	اقتراب	الحج	۲	إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝
				تحقق اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے
			="	إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ ۝
				تحقق اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے
۱۹	امخلاق	عنکبوت	۲	يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۝
				عذاب کرتا ہے جسکو چاہے اور بخشتا ہے جسکو چاہے
۲۱	اتلوا		۶	وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقًا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۝
				اور کتنے چلنے والے ہیں بیچ زمین کے کہ نہیں اٹھائے پھرتے رزق بخندا ہی رزق دیتا
			="	اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۝
				اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جسے چاہے بندوں اپنے سے اور تنگ کرتا ہے وہی
		روم	۴	أَوْ كَرِيمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝
				کیا نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہ اللہ کو لیتا ہے رزق واسطے جسے چاہے اور بند کرتا ہے
		السجدة	۲	وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ ۝
				اور اگر چاہتے ہم اللہ دیتے ہم ہر کسی کو ہدایت اسکی اور میں ثابت ہوئی بات
				مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّن دَرَّةٍ مِّن جَهَنَّمَ ۚ وَالنَّاسُ جَمْعِينَ ۝
				پیروزن کے کہ البتہ بہرہ و گناہین دوزخ کو جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے

انزل ما از سجدة ۲	۲	فَذُو قَوْمًا نَسِيَةً لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا الْخ
انزل ما از خراب ۲	۲	پس جگہوں کے کہ ہوں گئے تھے تم ملاقات اس دن اپنے کی
وزنفت السبا ۵	۵	قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ کہہ کہ ہرگز نہ فائدہ دیگا تمکو بہاگنا اگر بہاگو تم موت سے یا قتل سے وَإِذْ لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ اور اس وقت نہ فائدہ دیے جاؤ گے مگر تھوڑا
وزنفت السبا ۵	۵	إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تجیق بروردگار سرا کہتا ہے رزق کو واسطے جسے چاہتا ہے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ ۖ وَمَا أَنْفَعُكُمْ مِنْ شَيْءٍ قُلْ خَيْرٌ لَكُمْ الرِّزْقُ اور تنگ کرتا ہے واسطے اسکے اور جو کچھ خرچ کرتے ہو تم کسی چیز سے پس وہ بدلاتا ہے اسکا
الفاطر ۱	۱	يَفْتِي اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِهِ فَلَا تَمْسِكْ لَهَا وَتَأْمِسْ کہو دیوے اللہ واسطے لوگوں کے رحمت سے پس نہیں بند کر نوالا واسطے اسکے اور جو کچھ بند فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ پس نہیں چھوڑ دینے والا واسطے اسکے پھیر اسکے اور وہ غالب ہے حکمت والا
الفاطر ۲	۲	أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ کیا پس شخص کہ زینت دیا گیا واسطے اسکے بر اعل اسکا پس دیکھا اسکو اچھا پس تجیق اللہ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ گمراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور گمراہ کرنا جسکو چاہتا ہے پس جاتا ہے جی تیرا نَفْسِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْعَوْنَ انکے افسوس سے تجیق اللہ جانتے والا ہے ساتھ انچیز کے کرتے ہیں

۲۲ ومن یقتل	الفاطر	۲	وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْرَفُ
			اور نہیں اٹھاتی کوئی عورت اور نہیں جنتی ہے مگر ساتھ علم اس کے اور نہیں عمر دیا جاتا
			مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عَمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
			کوئی عمر دیا گیا اور نہ کم کیا جاتا ہے عمر اس کے سے گریج کتاب کے لکھا ہوا ہے
۲۳ ومن یقتل	فاطر	۳	يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
			ای لوگو تم محتاج ہو طرف اللہ کے اور اللہ وہی ہے بے احتیاج
			الْحَمِيدُ ۚ إِنَّ يَتَشَاءُنَ اللَّهُ لِيَجْزِيََ الَّذِينَ هُنَا أَمْهَلُوا
			تقریف کیا گیا اور اگر چاہے لجا دے تمکو اور لے آوے پیدا پیش تھی
	تین	۵	إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ كُنْ فَيَكُونُ
			سوائے اس کے نہیں کہ حکم اس کا جب چاہے پیدا کرنا کسی چیز کا کہہ کر ہے واسطے اس کی کہ ہو
			فَيُخَوِّذُ الَّذِينَ بَدَّ لَهُمْ مَلَائِكُهُمْ لِيُرْجِعُوهُنَّ إِلَى اللَّهِ
			پس پاکی ہے اُس ذات پاک کو کہ ہم ہاتھ ادا سیکے ہے پادشاہی سب چیزوں کی اور طرف اس کے پیر
۲۴ فمن أظلم	الزمر	۵	اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ
			اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو نزدیک موت اور تھی کے اور نہیں موی قبض کر لیتا ہے
			فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ
			انکو بیچ پند آگن کے پس بند کر لیتا ہے جنکو کہ مقرر کی ہے اور اُن کے موت
			وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
			اور بھیج دیتا ہے اور ان کو ایک وقت مقرر تک جس سے اس کے
			لَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝
			البتہ نشانہ ہیں واسطے اُس قوم کے کہ فکر کرتے ہیں

فن انظم	الزمر	۵	اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء	کیا نہیں جانتے یہ کہ اللہ کتنا بڑا ہے رزق واسطے جسے چاہے
فن انظم	مؤمن	۲	ويقدر ان في ذلك لايت لقوم يومنون	اور بند کرنا ہے تحقیق سچ اسکے اللہ نشانہاں میں واسطے اُس قوم کے کہ ایمان لائے ہیں
فن انظم	مؤمن	۲	هو الذي يرزقكم ايتيه ويذلل لكم من السماء رزقا	وہی ہے جو دکھلاتا ہے تمکو نشانہاں اپنی اور اتارتا ہے واسطے تمہارے آسمان کے رزق
فن انظم	مؤمن	۲	وما يذکر الا من بينب	اور نہیں نصیحت کرتا مگر جو کہ رجوع کرتا ہے
=	=	۷	هو الذي يحي ويميت فاذا امر افا ان يقول	وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے پس جبکہ مقرر کرتا ہے کچھ کام پس ہوا سے اسکے نہیں
=	=	۷	كفي كون	اوسکو بس ہو جاتا ہے
البيورد	المستودع	۲	له مقاليد السموات والارض يبسط الرزق	واسطے اسکے میں کھچان آسمانوں اور زمین کی کشادہ کرتا ہے رزق
البيورد	المستودع	۲	من يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم	واسطے جسے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے تحقیق وہ ہر چیز کو جانتے والا ہے
=	=	۵	لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء	واسطے اللہ کے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے
=	=	۵	يحب لمن يشاء ان انا وهب لمن يشاء الذكور	دیتا ہے جسے چاہتا ہے نشانہاں اور دیتا ہے جسکو چاہے بیٹے

<p>اَوْ يَرْوِجَهُمْ ذِكْرًا وَاَنَا وَجْعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً</p>			
<p>یا ملا دیتا ہے اور کو بیٹے اور بیٹیاں اور کرتا ہے جسکو چاہتا ہے</p>			
<p>وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي نَفْسِكَ فَلْيَبْصُرْ</p>	۲۶	حَمْدٌ وَالذَّلِيلُ	۱
<p>اور بیچ زمین کے نشانیوں میں واسطے یقین لانے والوں کے اور بیچ جانوں تمہارے کی ہے کیا ہیں</p>			
<p>وَفِي السَّمَاءِ آيَاتٌ لَكُمْ وَمَا تَعْدُونَ</p>			
<p>اور بیچ آسمان کے ہے رزق تمہارا اور جو کچھ وعدہ دیے جاتے ہو تم</p>			
<p>إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ</p>	۲۷	قَالَ عَاطِبُ بْنُ	۳
<p>تجیق اللہ وہ ہے رزق دینے والا زور آور استوار</p>			
<p>إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رِجَالًا بَصِيرِينَ</p>	۳	القصاص	۳
<p>تجیق ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اسکو ساتھ اندازہ کے اور ہمیں حکم ہمارا اگر ایک فوج جیسا نہ کرنا ساتھ آگہی کے</p>			
<p>مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ</p>	۳	الحديد	۳
<p>بہین پہنچتی کوئی مصیبت بیچ زمین کے اور نہ بیچ جانوں تمہارے کے</p>			
<p>إِنَّا فِي كِتَابٍ مُنْقَلَبٍ قَبْلَ أَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ</p>			
<p>مگر بیچ کتاب ہے کسی پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اسکو تجیق پہلے اور اللہ کے</p>			
<p>يَسِيرٌ لِّكَيْلَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ</p>			
<p>آسان ہے تو کہ نہ غم کہاؤ تم اور پراسچیز کے کہ جو گئی تھی اور مت خوش ہو سنا اور ہونے کے کہ آئی تمکو</p>			
<p>مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ</p>	۲۸	قَالَ مَسْعُودُ	۲
<p>بہین پہنچتی کوئی مصیبت مگر ساتھ حکم اللہ کے اللہ جو کوئی ایمان لائے</p>			
<p>بِاللَّهِ هَدَىٰ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ</p>			
<p>ساتھ اللہ کے ہدایت کرتا ہے دل اسکو کہ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے</p>			

سجده ملائکہ و خلقت و خلافت حضرت آدم علیہ السلام

وانکار و تکبر ابلیس و اغواء شیطان علیہ اللعنة

سید سورت رکوع	آیات
۲	وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ فَسَبَّوْا۟ عَلَیْهِ وَ كَفَرُوْۤا بِآیٰتِ رَبِّهِمْ ۚ فَجَعَلْنَا لِبٰۤسَمٰٓءَۃَ بِنْتِ اٰدَمَ مَرْجُوْمًا ۗ
۲	وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ لَمْ نَصُوْرْكُمْ فَمَا قَدَّمْنَا بِالْحَيٰۤاتِ اَسْبَدًا ۗ
۲	لَا اَدْرٰی فِیْ سَبِّ الْاِیۡمٰنِ اِلَّا اِبْلِیۡسَ ۗ لَمۡ یَّكُنۡ مِنَ السَّیِّئِیۡنَ ۗ
۲	قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۗ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيۡ مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِیۡنٍ ۗ
۲	مِنْهَا فَمَا یَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَّكِبَ عَلَیْهَا فَاخْرَجْنٰكَ مِنْهَا ۗ

تا جزء مقسومہ ۰ پورا رکوع دیکھو قرآن شریف

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِزْقًا

اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اور پڑھایا اپنے انکو سوار ہون پر بیج چھلکے اور دریا اور

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

پاکیزہ سے اور بزرگی دی ہمیں انکو اور بہتوں کے ان لوگوں سے کہ پیدا کیے ہیں بزرگی

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ يُجِدْ

اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا ہمیں طرف آدم کے پہلے اس سے پس بھول گیا اور نہ پایا

لَهُ عَزْمًا ۚ تَارِيثًا هُدًى دِكْحُوَ قُرْآنٍ مَّجِيدٍ

دائے اسکے فقد خلافا

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

تختوں پر جو دیکھا تھا ہمیں امانت کو اور آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے

فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

پس انکار کیا سب نے یہ کہ اٹھا دینگے اسکو اور ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اسکو

الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

انسان نے تختوں وہ تھا بے باک نادان

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّنْ طِينٍ

جو وقت کہا پروردگار ترے نے واسطے فرشتوں کے تختوں میں پیدا کرینو لایا ہوں انسان کو طین

فَإِذْ أَسْوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعْوَاهُ

پس جو وقت درست کردن اسکو اور پھونکوں بیجا اسکے روح اپنی میں سے پس گر پڑا واسطی اسکے

يَسْجُدِينَ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ

سجدہ کرتے ہوئے پس سجدہ کیا فرشتوں سب ساروں نے

اِلَّا اِبْلٰسَ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ قَالَ

مگر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا کافروں سے کہا

يٰۤاِبْلٰسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِیْ

اے ابلیس کس چیز نے منع کیا تجھکو یہ کہ سجدہ کرے واسطے اے چیز کے کہ بنایا میں نے ہاتھ

اِسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِيْنَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ

کیا تکبر کیا تو نے یا تھا تو بلند مرتبہ والوں سے کہا کہ میں بہتر ہوں

مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ قَالَ فَاخْرِجْ

اس سے پیدا کیا ہے تو نے جھکو اگل سے اور پیدا کیا ہے اسکو مٹی سے کہا پس نکل

مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ وَّاِنَّ عَلٰیكَ لَعْنَتِيْ

ان آسمانوں میں سے پس تحقیق تو رانہ گیا ہی اور تحقیق اوپر تیرے لعنت ہے میری

اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ تَاٰجِعِيْنَ وِیَکُوْرٰنِ شَرِیْفٍ

دن جزا تک

روح

آیت

وَسْـَٔلُوْا ذٰلِكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ

اور سوال کرتے ہیں تجھکو جان سے کہہ جان حکم پروردگار میری کی سے ہے

نفس

۱۳ مجاہدی	یوسف	۷	إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي تختیق جی البتہ حکم کرنا ہے ساتھ برائی کے مگر جو رحم کرے۔ یہ میرا
			إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ تختیق رب میرا بخشنے والا مہربان ہے
تبالطمان	اقیمۃ	۱	وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اور قسم کہتا ہوں میں جان ملامت کرنے والی
۳۰ عم	الفجر	۱	يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ مے جان آرام کرنے والی یہر جطرف پروردگار اپنے کے

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَأَمَّا	بصراف	۲	يٰٓأَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ اے بیوقوفہم کے نہ بھکا دے تکر شیطان جیسے نکال دیا ان پاس ہمارے
			مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا پہشت سے اتار لیا انے لباس انکا تو کہ دکھلاؤ انکو شرکاء انکی
			إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ تختیق وہ دیکھتا ہے تکر وہ اور کنیا اسکا اسطرح سے کہ نہیں دیکھتے تم انکو تختیق
			جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ کیا نے شیاطین کو درویشگان ان لوگوں کے کہ نہیں ایمان لائے
تالبلاد		۲۲	وَأَقْبِرْ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر وہ سو کری تکر شیطان کی طرف سے سو ڈالنی والا شیطان کو پکڑو ساتھ تختیق وہ سنی والا کا والا ہی

وَاللّٰهُ اَعْرَفُ ۱۳	فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ	پس پناہ پکڑو ساتھ اللہ کے
فَمِنْ اَظْلَمِ حُرْمِ الْجَنَّةِ ۵	وَمَا يَزْعَمُكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ	اور اگر جوک وی جھگڑے شیطان کی طرف سے کوئی جو کہنے والا ہے پناہ پکڑو ساتھ اللہ کے
	اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِیْمُ ۵	تجھن دوسے والا جاننے والا ہے
مذمت دنیا و فضیلت آخرت		
سپاہ	سورت	آیات
الم	البقرة ۱۰	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَشْرَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
		وہ لوگ وہ ہیں کہ سول یا زندگان دنیا کو بے آخرت کے
		فَلَا يَخْفَعُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصُرُوْنَ
		پس نہ ہلکا کیا جاوے گا ان کے عذاب اور نہ وہ مدد کے قادر ہیں گے
سبحو	۲۵	فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا اِنْتَابِي الدُّنْيَا وَمَا لِيْ
		پس بعض لوگوں سے وہ شخص کہ کہتا ہے اے پروردگار پھر دی پکڑو دنیا کے ساتھ
		الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۵
		آخرت کے کچھ سے
	۲۹	رَبِّنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْتَفْرِخُوْنَ مِنْ
		زہمت دی گئے ہیں واسطے ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے زندگان دنیا کی اور پھٹا کرتے ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْضَلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ			
اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو لوگ کہ پرہیزگار ہیں اور انکے سے دن قیامت کے			
زِينَةَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ	۲	تلك الرسل العمان	
زینت دی گئی واسطے لوگوں کی محبت خواہشوں کی عورتوں سے اور بیٹوں سے			
وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ			
اور خزانے لکھے کیے گیون سونے سے اور چاندی سے			
وَالْجِبِلُّ الْمَسْؤُومَةُ وَالْأَنْعَامِ وَالْكَرْتِ ذَاكَ			
اور گھوڑے نشان کیے ہوئے اور چارپائے اور کہتی سے یہ			
مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنَاتٍ			
فائدہ ہے زندگانی دنیا کا اور اللہ نزدیک اسکے ہے اچھی جگہ پر جانیکی			
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ	۱۹	=	لذتنا
اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر فائدہ اٹھانا فریب کا			
لَا يَعْرِفَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ	۲۰	=	=
نزدیک میں ڈالے جھکو ہرنا اُن لوگوں کا کہ کافر ہوئے بیچ شہر دن کے			
مَتَاعٍ قَلِيلٍ قَلِمَ مَا وَكُفِّرْتُمْ وَبِئْسَ لِلْقَادِ			
فائدہ ہے تھوڑا بہر جگہ رہنے اور نیکی دوزخ ہے اور برا ہے بچھونا			
قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَتَّقُونَ	۱۱	والحسنت النساء	
کہہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے واسطے اُن شخص کے کہ پرہیزگاری			
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهُوَ الَّذِي آخِرَةُ	۲	وَأَذْمَعُوا الأنعام	
اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر کہیں اور شغلہ اور البتہ گہرا آخرت کا			

<p>خَيْرَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ ط</p>			
<p>بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے کہ پرہیزگاری کرتے ہیں</p>			
<p>وَذَرِ الَّذِينَ اخْتَدُوا دِينَهُمْ لِعِبَادٍ لَهُمْ وَأَعْرَافَهُمْ</p>	۸	العام	واذا سمعوا
<p>اور چھوڑ دوسے ان لوگوں کو کہ بگڑتے ہیں دین اپنے کو کہیں اور تماشاً اور فریب دیا ہے انکو</p>			
<p>لِحَيَاةِ الدُّنْيَا وَذَكَرَ فِيهَا أَنْ يُبْسَلْ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ</p>			
<p>زندگانی دنیائی اور نصیحت کر ساتھ اس کے اس سے کہ ہلاک میں سو بھانجا جو ایک ہی بسبب کے کہ کیا ہے</p>			
<p>الَّذِينَ اخْتَدُوا دِينَهُمْ لِعِبَادٍ لَهُمْ وَأَعْرَافَهُمْ لِحَيَاةِ الدُّنْيَا</p>	۶	اعراف	ولواتنا
<p>جنہوں نے بگڑا دین اپنا تماشاً اور کہیں اور اور فریب دیا انکو زندگانی</p>			
<p>الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ نُنَسِّسُهُمْ كُنُسًا فِي الْقَاءِ يَوْمَ هَذَا الْآيَةِ</p>			
<p>دنیا کی نے پس آج بھول جاؤ گے ہم انکو جیسا بھول گئے تھے وہ ملاقات دن اپنے کی جو ہے</p>			
<p>وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ كُفْرَتُهُمْ ط</p>	۳	انفال	قال اللہ
<p>اور جانو یہ کہ مال تمہارے اور اولاد تمہاری کفر سے</p>			
<p>أَرْضِيْتُمْ بِحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعْتُكُمْ</p>	۶	توبہ	واحلوا
<p>کیا راضی ہو سے تم ساتھ زندگانی دنیا کے آخرت سے پس نہیں فائدہ</p>			
<p>بِحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ○</p>			
<p>زندگانی دنیا کا بیچ آخرت کے مگر ہوتا</p>			
<p>فَلَا تَعْجَبْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ</p>	۷		
<p>پس نہ خوش گئے تجھکو مال ان کے اور نہ اولاد انکی</p>			
<p>اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ بِهَا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ</p>			
<p>اللہ تو کہ مٹا دے انکو ساتھ ان چیزوں کے بیچ زندگانی دنیا کے اور نکل جاوے</p>			

انفسهم وهم كفرون

جاہلین انکی اور وہ کافر ہوں

ولا یحجک أموالهم واولادهم انما یرید اللہ

اور نہ خوش گین چھو مال لکھے اور نہ اولاد انکی سوائے ان کے نہیں کہہ لادہ کرنا

ان یعدی بآدم ہما فی الدنیا و یرحق القسم وہم کفرین

یہ کہ خابری لگوسا نہ تو کئی ہم دنیا کے اور عمل جاوین جاہلین انکی اور وہ کافر ہوں

ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیوة الدنیا

جنہن جو لوگ کہ نہیں امید رکھتے ملاقات ہمارگی اور ماضی ہوسے ساتھ زندگانی دنیا کے

واظنوا بها والذین ہم عن ایتنا غفلون

یہ انام پڑا ساتھ انکے اور جو لوگ کہ نہ نشا یوں ہماری سے غافل ہوں

یا ایھا الناس انما بعینکم علی انفسکم متاعا حیاة الدنیا

اے لوگو سہ سے انکے نہیں کہ سرکش تمہاری اوپر جانوں تمہارے کی یہ لیلہ فاجرہ مگر نکال

انما مثل الحیوة الدنیا کما انزلنا من السماء

سوائے نہیں کہ مثل زندگانی دنیا کی مانند پانی کہ بہتا آتا رہتا ہے اور کہ آسمان سے

فاحتلط بہ نبات الارض من سائر الناس

پس مٹتی ساتھ انکے رو پڑتی زمین کی اس چیز سے کہ کہاتے ہیں دل

والانعام حتی اذا اخذت الارض خرما

اور چارپا سے یہاں تک کہ جب پڑتی ہے زمین بنا کا اپنا

وارینت و ظن اهلها انهم قد رن علیہا

اور زمین پڑتی ہے اور جانتے ہیں اول انکے کہ وہ قادر ہیں اوپر انکے

واعلموا	توبہ	۱۱
یعتدوا	یونس	۱
		۳
		۴

<p>اتمها أمراً ليلاً أو نهاراً فجعلناهما حصيداً كأنهم</p>	
<p>آتا ہے حکم ہوا رات کو یا دن کو پس کر دیتے ہیں ہم انکو کٹی ہوئی گڑیا کہہ</p>	
<p>تغن يا لأمس كذلك لفصل الآيت لقوم يتفكروا</p>	
<p>بے تحاشہ کل کو ایسی طرح معطل بیان کرتے ہیں ہم نشانہ ہو کر واسطے اس قوم کے</p>	
<p>متاع في الدنيا ثم لينام جهم ثم نذيقهم العذاب</p>	<p>يعتدوا يونس ۷</p>
<p>فائدہ ہے جہم دنیا کے پہر طرف ہمارے ہے پہرانا انکا پہر کھا دینگے ہم انکو عذاب</p>	
<p>الشديد بما كانوا يكفرون</p>	
<p>سخت سبب اسکے کہتے کفر کرتے</p>	
<p>من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف</p>	<p>ما من جليل هود ۲</p>
<p>جو کوئی امداد کرتا ہے زندگانی دنیا کا اور آسائش اور کمال پورا دینگے ہم</p>	
<p>اليوم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينجسون</p>	
<p>ہرگز انکے عمل انکے ہیچ انکے اور نہ ہیچ انکے نہ کسی کیے جاویں گے</p>	
<p>اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار</p>	
<p>یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں واسطے انکے نہم آخرت کے کمال</p>	
<p>وحيط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون</p>	
<p>اور گہرا ہو گیا جو کچھ کیا تھا انہوں نے ہیچ انکے اور جو کچھ کیا تھا انہوں نے وہ عمل کرتے</p>	
<p>فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا</p>	
<p>خوش ہو رہے تھے یہاں تک زندگانی دنیا کے اور نہیں ۴ زندگانی دنیا کی</p>	
<p>في الآخرة إلا متاعاً</p>	<p>وما لئلا الوعد ۳</p>
<p>نہم آخرت کے کمال سبب تھوڑا</p>	

<p>وما أبرئ ابوہم</p>	<p>۱ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وہ لوگ جو دوست رکھتے ہیں زندگی دنیا کو اور آخرت کے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيُغْوُوا عِوَجًا اور بند کرتے ہیں سب سے خدا کی اور جانتے ہیں واسطے اپنی کجی أُولِيكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ○ یہ لوگ گمراہی دور کے ہیں</p>
<p>ربنا نخل</p>	<p>۱۳ مَا عِنْدَكَ كُفْرِي فَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ بَاقِي جو کچھ نزدیک تمہارے ہے تمام ہو جاتا ہے اور جو کچھ نزدیک اللہ کے ہے اپنی دینے والا ہے</p>
<p>۱۵</p>	<p>۱۵ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ ○ فائدہ ہے ہونا سا اور واسطے انکے ہے عذاب ہر دینے والا</p>
<p>۱۵ سبحان اللہ نوح اسیر</p>	<p>۲ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا فِيهَا مَنَاشِقَ جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کا شباب دیتے ہیں ہم انکو پیچ انکے جو چاہتے ہیں ہم مَنْ يُرِيدُ نَجْمًا جَعَلْنَا فِيهَا جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَادًّا مَوَدًّا جسکے واسطے ارادہ کرتے ہیں ہم پھر کرتے ہیں ہم واسطے اسکے روزم داخل ہوگا اور ہمیں برے حال سے مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا راہدہ ہوا اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور سعی کرتا ہے واسطے اپنی جوسی اپنی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ○ اور وہ ایمان والا ہے پس یہ لوگ ہیں سعی اپنی تدر دانی کی گئے ہے كَلَامًا مَدْحُورًا وَهُوَ آتٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ط ہر ایک کو ہر دیتے ہیں ہم انکو اور انکو بخشش پروردگار تیری کی سے</p>

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا أَنْظِرْكَ فَضْلَنَا

اور نہیں ہے بخشش پروردگار تیرے کی بندگی گئی دیکھہ کیونکہ بزرگی دی گئی

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْآخِرَةُ الْآخِرَةُ سِرَّاتٍ

بعض اہلے کو اوپر بعض کے اور بستہ آخرت بڑی ہے درجون میں

وَإَكْبَرُ تَقْضِيًّا ○

اور بڑی ہے بزرگی دینے میں

مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

مثال زندگی دنیائی مانند پانی کے اتارنے سے آسمان سے

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا

پس ملتی ساتھ اس کے روئیدگی زمین کی پس ہو گیا چورا چورا

تَذَرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ○

اڑاتی ہیں اسکو بادیں اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے قادر

لِلدَّالِّ وَالْبُنُوتِ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ

مال اور بیٹے آرائش ہیں زندگی دنیائی کے اور باقی رہنے والی

الضَّرَائِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ○

نیکیاں بہتر ہیں نزدیک پروردگار تیرے کے تواب میں اور بہتر ہیں اور از رو بہتر ہیں

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ

کہہ کیا خبر دہین ہم تمکو ساتھ بہت لوٹا ہے نفع ان کے عمل میں وہ لوگ کہ ہوئی گئے

سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهم

سعی انہی بیچ زندگی دنیائی کے اور وہ گمان کرتے ہیں برکت

سبحان اللہ کھف

قال لہ کھف ۱۱

يُحْسِنُونَ صِنْعًا ۝

ایسا کرتے ہیں کام

قالہ اقل طہ

وَلَا تَدْنُ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ مِنْ زَوْجًا

اور ہرگز مت ہی کر دونوں آنکھیں اپنی طرف اسی چیز کے کہ فائدہ دیا ہے جسے ساتھ رکھے

مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ زُورٌ

لوگوں کو آرائش زندگی دینا کی تو کہ آرائشوں میں انکو جو جسے اس دنیا

رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

پروردگار تیرا بھلا ہے اور باقی رہنے والا ہے

قد افلح المؤمنون

الْيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنِ

کیا گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں ہم انکو سنبھالنے والے اور انہوں سے

تَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْحَيَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

شتابی کرتے ہیں اور اسلئے انکے پیچ ہلانوں کے بلکہ نہیں سمجھتے

وَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ لِّحَيَاتِ الدُّنْيَا وَ

اور جو کچھ کر دیے گئے ہوتے کسی چیز سے ہیں فائدہ زندگی دینا کا ہے اور

زِينَتًا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

زینت اور سلی ہے اور جو نزدیک اللہ کے ہے بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے کیا پس نہیں سمجھتے تم

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا يَتَذَكَّرُ

ایسا جس کو شخص کہ وعدہ دیا ہے جسے اسکو وعدہ نیک پس وہ سنے والا ہے اس سے اس نے نہیں سمجھتا

مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝

بارہ زندگی دینا کا پھر وہ دن قیامت کے حاضر کیے ہیں

۲۰ ام خلق القصص ۷۶	لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ
	بت خوش ہو تحقیق اللہ بہین دوست رکھتا بہت خوش ہونے والے کو اور طلب کر
	فَمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
	بج اس چیز کے کر دیا ہے جو اللہ نے گہراخت کا اور مت بھول حصہ اپنا
	مِنَ الدُّنْيَا وَآخِرِينَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
	دنیا سے اور احسان کر طرف خلق کے جیسا کہ احسان کیا اللہ نے طرف تیرا اور
	تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِئِينَ
	بج فساد بیج زمین کے تحقیق اللہ بہین دوست رکھتا فساد کر خواہو لوگو
	وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ
	اور بہین یہ زندگی دنیا کی مگر کہیں اور مشغولہ اور محقق
	الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
	گہراخت کا اللہ وہ ہے زندگی گانی اگر ہوتے جانتے
	يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفَلُونَ
	جانتے ہیں ظاہر کو زندگی گانی دنیا کی سے اور وہ آخرت سے ہیں غافل
	إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
	تحقیق وعدہ اللہ کا سچا ہے میں نہ فریب دی تلو زندگی گانی دنیا کی
	وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرْفُورُ
	اور نہ فریب دے تلو ساتھ اللہ کے فریب دینے والا
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ
	ای تلو تحقیق وعدہ اللہ کا سچا ہے میں نہ فریب دے تلو

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَبْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

زندگانی دنیا کی اور نہ فریب دے تمکو ساتھ اللہ کے فریب دینے والا

يَقُولُ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ

ای قوم میری سوا اسکے نہیں کہ یہ زندگانی دنیا کی فائدہ ہے کم اور جنت آخرت

هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يَجْزِيهَا مِنْ عَمَلٍ

وہی ہے گھر رہنے کا جس نے کی برائی پس نہیں جزا دیا جاوے گا مگر مانند اسکے اور جہنم کیا

صَلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْشِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

کام اچھا مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ہو ایمان والا پس یہ لوگ داخل ہونگے

الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

بہشت میں رزق دیے جاوے گئے بیچ اسکے بے حساب

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

جو کوئی چاہے کہہنی آخرت کی زیادہ دیتے ہیں ہم اسکو جہت کہہنی اسکی

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا

اور جو کوئی چاہتا ہے کہہنی دنیا کی دیتے ہیں ہم اسکو کچھ اور جہت اور

لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصَدَّقَ

دے اسکے بیچ آخرت کے کچھ حصہ

فَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

پس جو کچھ دیے گئے ہونگے کسی چیز سے پس فائدہ ہے زندگانی دنیا کا اور

مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رُءُوسِهِمْ

جو کچھ نزد اللہ کے ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان کے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے اور اوپر درویش

فمن أظلم للثمن

اليه يرد الشوك

۲	المعین	۲	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهْوُ
			سوائے اسکے نہیں کہ زندگانی دنیا کی کہل ہے اور تماشہ
۳	المعید	۳	اعلموا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهْوُ وَزِينَةٌ
			جانزیہ کہ زندگانی دنیا کی کہل ہے اور دل بہلانے سے اور بناؤ کرنا اور
			وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
			اور بڑائی کرنی ہے آپس میں اور زیادتی کرنی ہے بیچ مالوں کے اور اولاد کے
			مَثَلُ عَيْتٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارِ بِنَاتِهِ لَمَّحٍ فَتَرَهُ مُصْفًى
			ماند مینہ کے خوش گناہ ہے کہیتی کر نیا لون کو الگ اسکا پیر زور سے آہنی ہے پس دیکھا اور تھوڑا
			لَمَّا يَكُونُ حُطًا وَأَوَّلِي الْأَجْرِ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّن
			پہر ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ اور زہیم آخرت کے عذاب ہے سخت اور بخشش ہے
			اللَّهُ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
			اللہ کی طرف سے اور رضامندی اور بہنیں زندگانی دنیا کی مگر فائدہ فریب کا
			بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرًا لِّمَن
			بلکہ اختیار کرتے ہو تم زندگانی دنیا کو اور آخرت بہت بہتر ہے اور باقی نمودالی
			وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
			اور دوست رکھتے ہو تم مال کو دوست رکھنا بہت
			بہت رونے اور تھوڑا مہنسنے کا حکم
			آیات
			فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
			پس جاہے کہ مہنسن تھوڑا اور رون بہت بے اور تھوڑے کے کہ مہنسنے کاتے

موت کے احکام

سپارہ	سورت	آیات
لن نزالہ	العمران	۱۵
		وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ مَوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْبًا مُوَجَّلًا
		اور نہیں ہے لاین واسطے کسی جان کے بہرہ مر جاوے مگر ساتھ حکم اللہ کے کہہ کہا ہو جس وقت
		۱۸
		کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ
		ہر جان چکنے والی ہے موت اور سوائے اسکے نہیں کہ پورے دیے جاوے گی
		یَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رَخَسَ عَنِ النَّارِ وَادْخَلَ الْجَنَّةَ
		دن قیامت کے پس جو کوئی دور کیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا بہشت میں
		فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَاعٌ الْعُرُورُ
		پس جتنی مراد کو پہنچا اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر فائدہ اٹھانے فریب کا
والعصمت النساء		۱۱
		إِن مَّا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ
		ہر جہان کہیں ہو تم یا ہو گی تلو موت اور اگر ہو تم بیچ ہر جہان
		مُسْتَبَدَّةً
		بند کے
اقتربتنا	انبیاء	۳
		کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِيمَا
		ہر جی چکنے والا ہے موت کا اور آزماتے ہیں ہم تمکو ساتھ برائی اور نیکی کے
		وَالْيَنَّا تَرْجَعُونَ
		اور طرف ہمارے پہرے جاوے گئے
اتلوا	عنکبوت	۶
		کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
		ہر جی چکنے والا ہے موت کا

<p>قُلْ يَتُوفَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ</p>	<p>۱</p>	<p>السَّعَةِ</p>	<p>انما او</p>
<p>کہ بعض کریگا تمہرے فرشتے موت کا وہ جو مقرر کیا گیا ہے ساتھ تمہارے</p> <p>تَمُرُّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ ○</p> <p>پہر طرف رب اپنے کے پھر جاؤ گے</p>			
<p>وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ</p>	<p>۲</p>	<p>ق</p>	<p>حَم</p>
<p>اور آئی بیہوشی موت کی ساتھ حق کے یہ ہے وہ چیز کہ تھا تو د</p> <p>مِنْهُ مُخَيَّدٌ ○</p> <p>اس سے مر جاا</p>			
<p>كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَأِنَّ ○</p> <p>جو کوئی اور پر زمین کے ہے فنا ہو جوالا ہے</p>	<p>۱</p>	<p>ح</p>	<p>قال خطيب</p>
<p>مَنْ قَدْ رَأَىٰ بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ</p> <p>بھنے ہی مقدر کی ہے درمیان تمہارے موت</p>	<p>۲</p>	<p>واقعة</p>	
<p>فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ○</p> <p>پس کیوں نہیں جس وقت کہ پہنچتی ہے جان حلق کو</p>	<p>۳</p>		
<p>قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّ مَلِيْقِكُمْ</p> <p>کہہ تجھیں موت جو بھاگتے ہو تم اس سے پس تجھیں وہ ملنے والی ہے جسے</p>	<p>۱</p>	<p>الجمعة</p>	<p>قد سمع الله</p>
<p>وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا</p> <p>اور ہرگز نہ ڈیرے لے دیکھا اس کسی جی کو جس وقت آدگی ابل اوسکی</p>	<p>۲</p>	<p>المنافقون</p>	
<p>إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَ وَقِيلَ مِنْ عَرِيقٍ مَوْظِنَ آتِهَا</p> <p>جس وقت پہنچتی ہے جان ہانس کہ اور کہا جاوے کون ہے جہاں چھوڑنے والا اور جاوے</p>	<p>۱</p>	<p>قيمة</p>	<p>نبأك</p>

الْفِرَاقُ وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝

بے جدائی اور پیٹ جاوے ایک پنڈلی دو سری پنڈلی سے

احکام قیامت و وعدہ عید

آیات

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

پس اللہ حکم کرے گا درمیان انکے دن قیامت کے

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا

جس دن کہ پاویگا ہر جی جو کچھ کیا ہے بہلائی سے حاضر کیا ہوا

وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تُوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا

اور جو کچھ کیا ہے بُرائی سے جا ہیگا کاش کہ درمیان اُس شخص کے اور درمیان اس بُرائی کے

يَوْمَ تَرَىٰ أَعْيُنٌ عَذَابًا لِّأُولَٰئِكَ لَمْ يَصِلُوا إِلَىٰ آيَاتِ الْآيَاتِ ۚ

اُن دن کہ سفید ہونگے مُنہ اور کالے ہونگے سونہ پس لے پر ہوگی

أَسْوَدَاتٍ وَأَجْرُهُمْ أَسْوَدٌ كَأَسْوَدِ الْإِنْيَابِ ۚ

کالے ہوئے سونہ انکے کیا کافر ہوئے تم جیسے ایمان لینے کے

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

پس چکو عذاب بسبب اسکے کہ تھے تم کفر کرتے

وَأَمَّا تَوْفَاقُونَ أَجْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْرٍ

اور سوا اسکے نہیں کہ پورے دیے جاؤ گے تم بے اپنے دن قیامت کے پس جو کوئی دودھ

عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

آگ سے اور داخل کیا گیا بہشت میں پس کس نے مزد کو پودھا

سپارہ

سورت

المتفق

۱۲

تلا لوسل

العمران

۳

المتفق

العمران

۱۱

المتفق

العمران

۱۱

المتفق

العمران

۱۱

المتفق

العمران

۱۱

المتفق

العمران

۱۱

المتفق

العمران

۱۱

المتفق

العمران

۱۱

<p>اذکر مع انعام ۹</p>	<p>یوم یفخر فی الصور <small>جدن کہ ہونکا جاوے گا۔ بیچ سور کے</small></p>
<p>لواثنا الاعراف ۱</p>	<p>وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ <small>اور تو نا اسدن حق ہے پس جو کوئی بہاری ہوئی تو اسکی</small></p> <p>فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ <small>پس یہ لوگ وہ ہیں ظالم پانے والے اور جو کوئی کہ ہلکی ہوئی</small></p> <p>مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ <small>قول اسکی پس یہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹوٹا دیا جانوں اپنی کو</small></p>
<p>قَالَ اللَّهُ اعراف ۲۳</p>	<p>يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَهَا قُلْ إِنَّمَا <small>سوال کرتے ہیں جگو قیامت سے کوئی ہے وقت قائم ہونے اور کیکا کہہ سکا اسکی</small></p> <p>عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْ تَأْتَى إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ <small>کہ علم اسکا نزدیک رب میرے سے نہ ظاہر کرے گا اسکو وقت اسکی رہا وہی بہاری ہے</small></p> <p>فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْدَ يَسْأَلُونَ <small>بیچ آسمانوں کے اور زمین کے ہیں تو یہی نہیں مگر نا کہان سوال کرتے ہیں</small></p> <p>كَأَنَّهُمْ حِفْظٌ عَلَيْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ <small>گو یا کرتو بحث کرنا ہے اس سے کہہ سکا اسکی نہیں علم اسکا نزدیک اللہ کے ہے</small></p> <p>وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <small>لیکن بہت لوگ نہیں جانتے</small></p>
<p>ساعت یونس ۵</p>	<p>وَيَوْمَ يُحْشَرُ هُمْ كَانُ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً <small>اور جدن اکٹھا کرے گا انکو گویا کہ رہنے تاکہ ساعت</small></p>

مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

دن سے ایک دوسرے کو پہچانیں گے آپس میں عین زبیران پایا ان لوگوں نے کہ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

ٹھٹھایا ملاقات اس کی کو اور نہ ہوئے راہ پانے والے

يَوْمَ تَبْدَلَ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

اُس دن کہ برلی جاوگی زمین سوائے اس زمین کے اور ہرے جاوینگے آسمان

وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سِرًّا وَالْحَسْبُ الْيَوْمَ الْقِيَامِ

اور رو برو ہونگے سب لوگوں سے اللہ ایک ہی غالب کے

وَنُحِبُّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشُورًا

اور نکالیں گے ہم واسطے اُس دن قیامت کے ایک کتاب کہ دیکھیں گے اور کو کہنے ہوں

أَفْرَأَيْكَ لَكَ لِنَفْسِكَ أَيُّومٍ عَلَيْكَ حَسِيبًا

پڑہ کتاب اپنی کفایت ہے جان تیری آج اور تیرے حساب لینے والے

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمِينًا يَوْمَ جُرُفٍ بُعِثَ فِي

اور چھوڑ دیا ہمیں بعض ان کے کو اُس دن کہ موج ہارتے ہیں بیچ بعض کے اور چھوڑا جاوینگا ہم

الْأَصْوَارِ جَمْعُهُمْ جَمْعًا وَعَرْضًا جَمْعُ يَوْمٍ مَعِنَ

صور کے پس اکٹھا کرینگے ہم ان کو اکٹھا کرنا اور رو برو لانگے ہم دفعہ کو اوس دن

لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا

واسطے کافروں کے رو برو لانا

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْآخِرَةِ وَقَدْ لُكِّسَ الْجُرْمِينَ

اُس دن کہ جمع کرینگے ہم پرہیزگار کو طرف رحمان کے مہمان اور نہ کھیلے ہم گنہگاروں کو

۱۳
مآبریٰ ابراہیم ۷

۱۴
مسیح بنی اسرائیل

۱۵
قال الم کف ۱۱۲

۱۶
موبہ ۶

<p>إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثَةً</p>			
<p>مرف دوزخ کے پاس</p>			
<p>إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْيَبُهُمُ الْخَيْرِيُّ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ</p>	۱۱	طہ	
<p>محنت قیامت آنوالی ہے نزدیک ہے کہ جیسا ڈالو نہیں اسکو تو کہ بلا دیا جاوے ہر وی ساتھ آنجن کے کہ کرنا ہے</p>			
<p>يَوْمَ يَنْفِرُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْجَحِيمَ يَوْمَئِذٍ أُولُو الْقُلُوبِ الْغَافِلِينَ</p>	۵	=	=
<p>اُن دن کہ ہونگا ماورنگانہم صور کے اور اکٹھا کرینگے ہم گنگا روگوا اُن دن کیری آنکھوں سے</p>			
<p>بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدِّهَا</p>	۱۲	اشیاء	اقرب
<p>بلکہ آتا ہی گئے پاس ناگہان ہیں بھکا کر وی انکو پس نہ سکتے پیر دینا اسکا</p>			
<p>وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ</p>			
<p>اور نہ وہ دیکھ رہے ہارینگے۔</p>			
<p>وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ</p>	۱۳	=	=
<p>اور رکھیں گے ہم ترازو میں عدل کی دن قیامت کے پس نہ ظلم کیا جاوے گا کوئی جی</p>			
<p>شَيْئًا وَإِذَا كَانَ مِنْهَا جَبَلٌ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا وَقَفْنَا عَلَى مِيزَانٍ</p>			
<p>پہرہ اور اگر ہو دیکھا علی آدمی کا برابر ایک ڈالائی کے لے آوینگے ہم اسکو کفایت میں ہم حساب کرنا</p>			
<p>وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقِ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ</p>	۱۴	=	=
<p>اور نزدیک تو ہے وعدہ سچا پس ناگہان وہ جزیرے میں آئیں ان لوگوں کی</p>			
<p>كُفْرًا يُؤْتِيهِمُ أَقْدَارُ اللَّائِي خَفَا مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ</p>			
<p>کہ کا فر ہوئے گئے ہونگے اسے اسے ہر کو محنت ہے ہم پہ صحت کے اس سے بلکہ تھے ہم ظالم</p>			
<p>تَا فَعَالِينَ وَيَكُونُ قرآن مجید</p>			
<p></p>			
<p></p>			

<p>اقترب الحج</p>	<p>۱</p>	<p>إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ تختی زلزلہ قیامت کا چیز ہے بڑی</p>
<p>=</p>	<p>۱</p>	<p>وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ اور یہ کہ قیامت آنی والی ہے نہیں شک بیچ سکتے اور یہ کہ اللہ اُتھا دینگا</p>
<p>=</p>	<p>۱</p>	<p>مَنْ فِي الْقُبُورِ ان لوگوں کو کہ بیچ قبروں کے ہیں</p>
<p>=</p>	<p>۲</p>	<p>الْمَلِكِ يُومِنُ بِاللَّهِ بِحُكْمٍ بَيْنَهُمْ فَأَلْبِسْ أَمْثَلُ الصَّلَاةِ بادشاہی سزا کی واسطے اللہ کے ہے حکم کرے گا درمیان ان کے پس وہ لوگ کہ ایمان لائے اور کام کیے جو صوفی فِي حَسْبِ النِّعَمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيُؤَابِتُنَّ فَإِنَّهُمْ لَكَاظِمُونَ تج بہشتوں نعمت کی ہیں اور وہ لوگ کہ کافر تھے اور جھٹلایا شاہینوں ہمارے کو پس لوگ واسطے آئی عذاب</p>
<p>قد افهم المؤمنون</p>	<p>۶</p>	<p>فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پس جب پھونکا جاوے گا جیم صور کے پس نہیں نسبت میان ان کے اس دن اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَأَنزِلْهُمْ أَلْفَ سَوْءٍ وَمَنْ رَخِلَتْ مَوَازِينُهُمْ پس جو شخص کہ پہاڑی ہوا پلہ اسکا پس یہ لوگ وہی ہیں ظالم پانچ اور جو شخص کہ ہلکا ہوا پلہ اسکا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ پس یہ لوگ ہیں جنہوں نے خیر نادیا جانوں اپنی کو بیچ دوزخ کے ہمیشہ رہیں گے</p>
<p>قال الذين فرقان ۲۹</p>	<p>۳</p>	<p>يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ جسدن دیکھیں فرشتوں کو ہیں خوشی اس دن گنہگاروں کو وَيَقُولُونَ حَسْرًا مَّجْمُومًا خَدُّوْا وَيَكْمُرُونَ كَيْدًا اور کہیں گے بند کیے حاد بندگیے جانا</p>

۲۰	ام مخلق	۶	وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
			اور جب موت آن پڑی گی بات اور انکے نکالین گے ہم واسطے انکے ایک جانور زمین سے
			تَكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ○ تاختم سورت دیکھو
			بویگا اونسے یہ کہ لوگ تھے ساتھ نشانوں ہماری کے نہیں یقین لاتے
۲۱	اتلما	۲	وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يَبِيسُ الْحَرَمُونَ ○ محضرون دیکھو ترا
			اور جہنم بہا ہوگی قیامت نامید ہونگے گنہگار
		۳	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْتُوا أَيَّامًا لَّيْسَتْ بِهَا
			ای لوگو ڈرو پروردگار اپنے سے اور ڈرو اُس دن سے کہ نہ کفایت کریگا
			وَالِدَعْنِ وَالِدًا وَلَدًا وَلَا مَوْلُودَ هُوَ جَارِعٌ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا
			باپ بیٹے اپنے سے اور نہ کوئی اولاد کفایت کر نیوالی ہے باپ اپنے سے کچھ
			إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ
			تجیق اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا اور اتارتا ہے مینہ اور جانتا ہے
			مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
			جو کچھ پیچ پیٹوں ما کے ہے اور نہیں جانتا کوئی جی کیا کما دیکھا گل کو
			وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
			اور نہیں جانتا کوئی جی کس زمین میں مرے گا تجیق اللہ جانتے والا خبر دہرے
			يَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ
			سوال کرتے ہیں بھگو لوگ قیامت سے کہہ سوا اسکے نہیں کہ علم اسکا نزدیک اللہ کے
			وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ○ تاختم رکوع دیکھو ترا
			اور کیا چہیز معلوم کر داتی ہے بھگو شاید کہ قیامت ہو نزدیک

<p>وزن ثقیل السبا</p>	<p>۱ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَا اور کہا ان لوگوں نے کہ کہ فرہوسین نہ آؤ گی ہمارے پاس قیامت کہہ کہ ہوں نہیں وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمُ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ تم ہے رب میرے کی کہ ہر شے آؤ گی تمہارے پاس جاننے والا پوشیدہ کا نہیں پوشیدہ اس کے مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَآرِثِي الْأَرْضِ وَلَا برابر ایک پھلکے کے بیچ آسمانوں کے اور نہ بیچ زمین کے اور نہ اصغر من ذلك ولا البر الا في كتاب مبين چھوٹا اس سے اور نہ بڑا کوئی چیز کتاب بیان کرنے والی کے ہے</p>
<p>۲۳ عالی لیس</p>	<p>۲۳ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے</p>
<p>الضفت</p>	<p>مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ نہیں انتظار کرتے مگر ایک آواز تھکا کہ پڑے ادھر اور وہ يَخْتَمُونَ تَائِبًا مَنُوحًا وَكَيْفَ يَتَذَكَّرُونَ بیچ جہاڑے کے ہوں</p>
<p>الضفت</p>	<p>۲۴ قُلْ نِعْمَ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ کہہ کہ ہوں اور تم ذلیل ہو گے پس تمہارے کہنے کا وہ آہناٹا تھا ہے کیا فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۚ فَالْمُرْجُونَ قَرِيبٌ مِّنْكُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَاظِمِينَ پس ناگہان وہ دیکھتے ہوں گے</p>
<p>۲۴ من اعظم</p>	<p>۲۴ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ اور زمین ساری گھٹی میں ہے اور کے دن قیامت کے اور آسمان</p>

مَطْوِيَّتٌ بَيْنِيْهِ ۝ تَاخِرُ سُوْرَتٌ دِيْكَوْرَانِ مَجِيْدٍ			
پڑھے ہوئے ہیں بیچ میں جانے ہاتھ لگنے کے			
يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ۝ نَايُطَافُ دِيْكَوْرَانِ مَجِيْدٍ	۲	التَّوْبَةِ	=
جہنم میں کہ وہ ظاہر ہوں گے			
اِلَيْهِ يَرْجِعُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۝ تَاخِرُ سُوْرَتٌ دِيْكَوْرَانِ مَجِيْدٍ	۶	حُمُرِ الْجَبَّةِ	۲۵ الْيَهُودِ
طرف اُسکے پہنچا ہوا ہے علم قیامت کا			
وَمَا يَدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۝ يَسْجَلُ	۲	الشُّوْرِ	=
اور کیا جانتے تو شاید کہ قیامت نزدیک ہے ستابی کہتے ہیں			
بِهَا الَّذِيْنَ لَا يَوْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَيَقُوْلُوْنَ			
ساتھ اُنکے وہ لوگ کہ نہیں ایمان لائے ساتھ اُنکے اور جو لوگ کہ ایمان لائے اُسے کہتے ہیں			
مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۝ اَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ			
اُس سے اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے خبردار رہتے ہیں وہ لوگ کہ جھگڑتے ہیں			
فِي السَّاعَةِ لَفٍ ضَلُّلٍ بَعِيْدٍ ۝			
بیچ قیامت کے ابستہ بیچ گراہی دور کے ہیں			
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً	۷۶	الْاَخْفٰى	اليهود
کیا نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا یہ کہ آدے اُنکے پاس ناگہان			
وَلَمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ تَاخِرُ سُوْرَتٌ دِيْكَوْرَانِ مَجِيْدٍ			
اور نہ نہیں سمجھتے ہوں			
وَنَفِيْ فِي الصُّوْرِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ۝ تَاخِرُ سُوْرَتٌ دِيْكَوْرَانِ مَجِيْدٍ	۳۰۲	الْحٰقِّ	حَمْرُ
اور پھر اُنکے پہنچے ہونگے یہ دن وعدہ نصاب کا			

سورة الطور	الطور	۲۷ قال فلما خطبكم
اقربت الساعة والسق القمر	سورة القمر	=
نزدیک آئی قیامت اور پہٹ لگا جائد		
یوم یدع الداع الی الشیء نکر		=
اس دن کہ پکارے گا ایک پکارنے والا طرف ایک چیز کی		
سورة واقعة	سورة واقعة	=
سورة قیمة	سورة القیمة	۲۹ تبرک الذی
سورة المرسلات	سورة المرسلات	=
سورة عم یسألون	المنبا	عم
سورة النازعات	النازعات	=
سورة عبس	العبس	=
سورة اذ الشمس کورت	کورت	=

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝	انفطار	۱
وَبِلِلْمُطَفِّفِينَ	المطففين	۱
إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝	انشقت	۱
هَلْ أُنْتَكِ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝	الغاشية	۱
إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝	الغصير	۱
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ	زلزلت	۱
الْقَارِعَةَ ۝	القارعة	۱
بعض آیات رحمت و وعده جنت		
آیات	سورت	سپارہ
وَكَثِيرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَزْهَمِ جَنَّتِ	البقرہ	الم
اور خوشخبری دے ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور کام کئے ایسے یہ کہ واسطے ان کے پیرائے		
بہتری میں جنہاں اکثر کلمہ رزق و امنہا میں		
ہیں جلتی ہیں نیچے ان کے سہریں جب دیے جاوینگے انہیں کے میووں کے رزق		

قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝	۸	یوسف	صابری
پس اللہ بہتر محافظ ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے سب سے مہربان ہے			
وَلَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ	۱۰	=	=
اور متناہد ہو رحمت اللہ کی سے تحقیق نہیں ناامید ہوتے			
رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ۝			
رحمت اللہ کی سے مگر قوم کافروں کی			
قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝	۲	الحجر	ربیع
کہنا اور کون ناامید ہوتا ہے رحمت پروردگار اپنے کی سے مگر گمراہ			
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝	۱	المؤمنون	قدافح
تحقیق فلاح پائی ایمان والوں نے وہ چیزیں نماز اپنے کے زاری کرتے ہیں			
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ			
اور وہ جو بیفائدہ بات سے اور کام سے موہنے سے بچنے والی ہیں اور وہ جو			
لِلذِّكْرِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝			
دائے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور وہ جو واسطے شرمگاہ اپنی کے محافظت کرتے ہیں			
الْأَعْلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَأُمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَالْحِمَىٰ			
مگر اوپر بیبیوں اپنے کے یا جنکے مالک ہوئے دانے ہاتھ لگنے میں تحقیق وہ			
خَيْرٌ مَّاؤُمِينَ ۝ فَمَنْ أَتَّبَعَ وَرَأَىٰ ذَلِكَ فَالْيَاكُفُورُ ۝			
بہتر ملامت کیے گئے پس جو کوئی چاہے سوا اسکے پس یہ لوگ			
هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ عَاهِدُونَ ۝			
وہی ہیں عدائے گزرنے والے اور جو امانتوں اپنی کو اور عہدوں اپنے کو			

رَاعُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

رعایت کرنوالے ہیں اور وہ جو اوپر نمازوں اپنے کے محافظت کرتے والے ہیں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ

یہ لوگ وہی ہیں وارث جو درخت کیونگے بہشت

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وہ بیچ اسکے ہمیش رہنے والے ہیں

رِجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ

وہ مرد کہ نہیں غافل کرتی انکو سوداگری اور نہ بیچنا یا

اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُخَافُونَ

خدا کی سے اور قایم کرنے نماز کے سے اور دینے زکوٰۃ کے سے ڈرتے ہیں

يَوْمًا تَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

اُس دن سے کہ پھر جاوینگے بیچ اسکے دل اور آنکھیں

لِيَرْحَمَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَأْعَمَلُوا وَيُزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

تو کہ بدل دیوی انکو ابد بہتر اور سچے سے کہ کیا انہوں نے اور زیادہ دے انکو اپنے فضل سے

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

اور بندے رحمان کے وہ لوگ ہیں کہ چلتے ہیں اوپر زمین کے آہستہ

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۚ وَالَّذِينَ

اور جو وقت کہ بات کرتے ہیں انسے جاہل کہتے ہیں کہ سلام ہے اور وہ لوگ کہ

يَسْتَوُونَ لَهُمْ سِجْدًا وَقِيَامًا ۚ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

رات کاٹتے ہیں واسطے پروردگار اپنے کے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے اور وہ لوگ کہتے ہیں

۱۸
قذافر

النور ۵

۹۱
وقال الذين

الفرقان ۶

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا

کہ اسے پروردگار ہمارا بہرہ دے جسے عذاب دوزخ کا تحقیق عذاب اسکا

كَانَ عَرْمَاءً لِّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

ہے لازم ہو جائیوالا تحقیق وہ بُری ہے جگہ قرار اور رہنے کی

تایم سورہ دیکھو قرآن مجید

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ

اور ایمان والی عورتیں اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والیان اور سچ بولنے والے

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَ

اور سچ بولنے والیان اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیان اور

الْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنَاتِ وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَ

عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیان اور خیرات دینے والے اور

الْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَفِظِينَ

خیرات دہینے والیان اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیان اور بچھانی کرنے والے

فَرُوحَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ

شرنگاہ اپنی کے اور بچھانی کرنے والیان اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور

الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

یاد کرنے والیان تیار کیا ہے اللہ نے واسطے اونکے بخشش اور ثواب بڑا

۲۲
وزینت

۵
اخواب

وہابی	الصفات	۲	<p>الْأَعْيَادِ لِلَّهِ الْمَخْلُصِينَ ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ</p>
			<p>مگر بندے اس کے مخلص کئے گئے یہ لوگ واسطے انکے رزق ہیں</p>
			<p>مَعْلُومٌ فَوَالِ اللَّهِ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝</p>
			<p>معلوم ہے اور وہ عزت دیے جا رہے ہیں۔ یہ جنتِ نعمت کے</p>
فمن اظلم الزمر	الزمر	۶	<p>قُلْ يُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا</p>
			<p>کہ اے بندوں میرے جنہوں نے زیادتی کی اور جانوں اپنے کے متناہد ہو</p>
			<p>مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ</p>
			<p>رحمت اللہ کی سے تحقیق اللہ بخشتا ہے گناہ سارے سبھی ہی</p>
			<p>هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۗ</p>
			<p>ہے بخشنے والا مہربان</p>
تبارک والذکر المعارج	المعارج	۱	<p>إِنَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۗ</p>
			<p>مگر نماز پڑھنے والے جو اوپر نماز اپنے کے ہمیش رہنے والے ہیں</p>
			<p>وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ مِنَ الْغُرُوبِ ۗ</p>
			<p>اور وہ لوگ جو بیچ مالوں انکے کے حصہ ہے معلوم واسطے مانگنے والے کے</p>
			<p>وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ</p>
			<p>اور وہ لوگ کہ تصدیق کرتے ہیں دنِ جزا کی کو اور جو لوگ کہ وہ</p>
			<p>مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ</p>
			<p>عذاب پر دردگارا اپنے سے ڈرتے ہیں تحقیق عذاب پر دردگارا ہے</p>
			<p>غَيْرُ مَأْمُونٍ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَقْوَامِهِمْ حِفْظُونَ</p>
			<p>نہیں کوئی اس سے بڑھ کر کیا گیا اور جو لوگ کہ وہ واسطے شرمگاہ اپنی کے حفاظت کرتے ہیں</p>

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَأَمْلَكْتَ أَيَّمَانَهُمْ فَأَنزَلَهُمْ

مگر اور جو روں اپنی کے یا جگے ملک جو سے ہیں واسطے اہم انہی میں گھنٹوں

غَيْرِ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

نہیں ملامت کیے گئے ہیں جو کوئی چاہے سوا اسکے ہیں یہ لوگ وہی ہیں

الْعَادُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَمَدَتِهِمْ رَاعُونَ ۚ

خدا سے بچھاننے والے اور وہ لوگ کہ واسطے امانتوں اپنی کے اور عہد اپنے کے رعایت کرتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ لِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۚ وَالَّذِينَ

اور وہ لوگ کہ ساتھ شہادتوں اپنی کے قائم رہنے والے ہیں اور وہ لوگ کہ وہ

عَلَىٰ صِدْقِهِمْ يُحَافِظُونَ ۚ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمِينَ

اپر نماز اپنی کے محافظت کر رہا ہے ہیں یہ لوگ نیچ بہشتوں کے ہیں تنظیم کیے گئے

احکام عبادت و اتباع شریعت

آیات	سورت	رکوع	پیارہ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ	البقرہ	۳	الم
اور لوگو عبادت کرو پروردگار اپنے کی			
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝	الحج	۶	ربنا
اور عبادت کرو پروردگار اپنے کی یہاں تک کہ آوے تجھ کو یقین			
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُرُوفًا وَسِيلًا وَإِن	مائدہ	۷	اتل ما عندکون
اور جن لوگوں نے محنت کی پیہراہ ہماری کے ابستہ دکھا دینگے ہم انکو راہ اپنی اور			
اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝			
تحقیق اللہ ساتھ احسان کرنا لوگوں کے ہے			

۲۵ الیہود	الجمانیۃ	لَمْ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنْ أَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ	۲
پہر بھگور کہا جسے ایک رستہ پر اس کام کے سوتو اسی پر عمل اور نہ			
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ			
پہل چاؤن پر ناوانوں کے			
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ			
یہ سوجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے اور راہ کی اور مہر ہے ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں			
۲۶ حطک قال فما	الذاریۃ	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ	۳
اور نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور آدمی کو مگر تو کہ عبادت کریں مجھ کو			
۳ عم	البنیۃ	وَمَا أُرِيدُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهُ فَالْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ	۱
اور نہیں حکم کئے گئے مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کو خالص کر کے اس کے دین کو بطور اہم سمجھتے ہو			
نقی تکلیف زائد از طاقت			
سیارہ ۳ تلاک البقر	سورت البقر	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا	۴
تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی جی کو مگر مہر امن اسکی کنجائش کے			
احکام غسل و طہارت و تمیم و وضو			
سیارہ ۵ والمحصنۃ النساء	سورت النساء	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ	۵
اسے لوگو جو ایمان لائے مت نزدیک جاؤ نماز کے اور ہونے			
سُكْرًا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا			
ست یہاں تک کہ جانو کیا کہتے ہو اور نہ جنابت سے			

الْأَعَابِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَأُولَٰئِكَ

گر گزرنے والے سبیل کے یہاں تک کہ نہالو اور اگر

كُنْتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن

ہو تم بیمار یا اور سفر کے یا آئے کوئی تم میں سے

الغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

جائی ضرور سے یا صحبت کرو عورتوں سے پس بناؤ تم پانی

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

پس قصد کرو مٹی پاک کا پس پونجھ لو

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

ساتھ مونہہ اپنے کے اور ہاتھوں اپنے کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

ای لوگو جو ایمان لائے ہو جب کھڑے ہو تم واسطے نماز کے پس دہو

وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

مونہوں اپنے کے اور ہاتھوں اپنے کے کہنیوں تک اور سر کرو سر دہن اپنوں کو

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

اور دہو پاؤں اپنوں کو دو کعبوں تک اور اگر ہو تم ناپاک پس نہالو

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

اور اگر ہو تم بیمار یا اور سفر کے یا آئے تم میں

مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا

سے مکان ضرور سے یا صحبت کرو تم عورتوں سے پس نہ یاد تم

لِلْمَكْنَةِ

لَا يَجِبُ

مَاءً فَيَسْتَوِي صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسِكُوا بِوُجُوهِكُمْ

پانی پس قصد کرتے ہیں پانی پس لومو ہون اپنے کو

وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

اور ہاتھوں ہاتھوں کو اس سے نہیں ارادہ کرتا اللہ تو کہ کرے اور تمہارے

حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

تنگی دیکھن ارادہ کرتا ہے تو کہ پاک کرے تم کو اور تو کہ توری کرے نعمت اپنی اور تمہارے

حکم کپڑہ پاک کرنے کا

وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرْهُمُ وَالرُّجُزَ قَاهِجْرًا

اور کپڑوں اینوں کو پس پاک کر اور بیلیدی کو پس چھوڑ

تبارک اللہ
مدثر ۱

حکم غسل حیض و منع قربت قبل از طہارت

سیارہ سورت رکوع

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَانٌ

اور سوال کرتے ہیں تجھ کو حیض سے کہہ دو نا پاک ہے

فَاعْزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

پس کنارہ کرو عورتوں کو بیچ حیض کے اور مت نزدیک جاؤ انکے

حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

یہاں تک کہ پاک ہوں پس جب نہالین پس جاؤ انکے پاس اس جگہ سے

أَمَرَكُمْ اللَّهُ ط

کہ حکم کیا تم کو اللہ نے

سَيَقُولُ
البقر ۲۸

احکام نماز

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَعُوا الرَّكْعِينَ	۵	البقرہ	
اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنا رکوع کے			
وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ	=	=	=
اور مدد پاؤں صبر کے اور نماز کے			
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ	۱۰	=	=
اور قائم رکھو نماز کو			
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ	۱۳	=	=
اور قائم رکھو نماز کو			
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ	۱۹	البقرہ	سُورَةُ
اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد پاؤں صبر کے اور نماز کے			
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَتَوَمَّؤُوا	۳۱	=	=
حفاظت کرو اور سب نمازوں کے اور اوپر نماز بیچ والی کے اور کھڑے ہو			
لِلَّهِ قُنُوتٌ ۚ تَاَعَلَمُونَ			
اللہ کے پاس دعا ہے چکے			
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ	۱۱	المحکمات النساء	
اور قائم رکھو نماز کو			
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ	۱۵	=	=
اور جہت چلو تم نے زمین کے پس نہیں اور تمہارے گناہ یہ کہ			

<p>تَقْرَأُوا مِنْ الصَّلَاةِ كِتَابًا مَوْجُودًا وَيُحْمَلُونَ فِيهَا</p>			
<p>وَإِنَّا قِيمُوا الصَّلَاةَ الْآيَةَ</p>	9	انعام	وَأَذِيعُوا
<p>وَاقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ</p>	3	اعراف	وَلِوَاتِنَا
<p>مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ</p>			
<p>وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ</p>	11	توبة	وَاعْلَمُوا
<p>عَلَى قَبْرِهِ إِنَّكُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَدْرِكُونَ</p>			
<p>وَهُمْ فَسِقُونَ</p>			
<p>وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ</p>	8	يونس	يَعْتَدُونَ
<p>وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ الْبَيْتِ</p>	10	هود	مَكَرًا
<p>إِنْ أَحْسَنْتَ يُدْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ</p>			

وَالَّذِينَ	ابراہیم	قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ
يَسْمَعُونَ	البحر	قَسْبَهُمْ بِجَدِّكَ وَكَانَ مِنَ السَّاجِدِينَ
سَمِعُوا	نوحی امیر	اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
وَالَّذِينَ		وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُورًا
وَالَّذِينَ		وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ تَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُومًا
وَالَّذِينَ		وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
وَالَّذِينَ	بجائے اعلیٰ	وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
وَالَّذِينَ		وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

وَمِنْ آيَاتِكُمُ اللَّيْلُ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافُ اللَّيْلِ يَكْفُرُونَ لِقَابِ رَبِّكَ
اور گہڑوں رات کی سے پس سبیح کر اور کناروں دن سے شاید کہ تو راہی ہو

قالہ ظہ ۸

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْلُكُ
اور حکم کر لوگوں اپنے کو ساتھ نماز کے اور صبر کر اور اسکے نہیں ہوا کرتے

رِزْقًا مِّنْ دُونِ رِزْقِكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝
رزق ہم ہی رزق دیتے ہیں بھگو اور عاقبت واسطے بہتر گاروں کے ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا
اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو

اقترب الحج ۱۰

رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
پروردگار اپنے کو اور کرو بہلائی تو کہ تم فلاح پاؤ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي
پس قائم رکھو نماز کو

۱۱

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي
اور قائم رکھو نماز کو

۱۲

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
اور بر پار کہہ نماز کو تحقیق نماز منع کرتی ہے بچائی سے

۲۱ اتل ما او العنکبو ۵

وَالْمُنكَرِ
اور نامقول سے

فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
پس سبیح کر اللہ کو شام کرتے ہو تم اور صبح کرتے ہو تم

۲

روم ۷

وَأَهْلَ الْاِحْسَانِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا

اور واسطے اُسکے سب تعریف بیچ آسمانوں کے اور زمین کے اور سورہ سے پھر

حِينَ تَظْهَرُونَ

اور جب نظر کرتے ہو تم

وَاقِمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور برپا رکھو نماز کو اور مت ہو شریک لانے والوں سے

إِنَّمَا يَوْمُ مَرِيَاتِنَا الَّذِيْنَ إِذْ ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا

سوا اسکے نہیں کہ ایمان لاتے ہیں ساتھ نشانوں ہماری کے وہ لوگ کہ جب یاد دلائی جاتے ہیں

سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

سجدہ میں اور پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف پروردگار اپنے کے اور وہ نہیں تکبر کرتے

تَتَجَافَىٰ جُنُوهُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَكُم مِّن

دور ہوتی ہیں کہ زمین اونچی پہچونوں سے بکارتے ہیں پروردگار اپنے کو

خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا

ڈر سے اور طمع سے اور اس چیز سے کہ دیا ہے ہمنے انکو خرچ کرتے ہیں اس سے

تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً

جانتا کوئی جی کیا چھپائی گئی ہے واسطے انکے مہندک آنکھوں سے بدلا

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اس چیز کا کہ تھے کرتے

وَاقِمُوا الصَّلٰوةَ

اور قائم رکھو نماز کو

اتل ماورم

السجدة

وزيقنا احزاب

۲۳	ومالی	الزمر	۱	أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزَنُ	کیا وہ شخص کہ وہ کرتا ہے بندگی وقت رات کے سجدے میں اور کھڑے کرتا ہے
				الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ	آخرت سے اور امید رکھتا ہے رحمت پروردگار اپنی کی
۲۴	حکم	س	۳	وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ	اور تسبیح کر ساتھ تعریف رب اپنے کے پہلے نکلنے سورج کے اور پہلے ڈوبنے سورج کے
				وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ	اور رات کو پس تسبیح کر اسکو بعد از نماز مغرب اور پہلے سجدے کے
۲۵	خطبہ قال فاما	الطور	۲	وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ	اور پاکی بیان کر ساتھ تعریف رب اپنے کے جب وقت کہ کھڑا ہو تو اور رات کو پس تسبیح کیا کرو اسکو
				وَأَدْبَارَ السُّجُودِ	اور پہلے جانے تارون کے
۲۶	قد سمع الله	المجادلہ	۲	فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ	پس قائم رکھو نماز کو
			۲	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ	ای لوگو جو ایمان لائے ہو جو وقت کہ پکارا جاوے واسطے نماز کے دن
				الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ	جمعہ کے پس شتابی کرو طرف یاد خدا کے اور چھوڑ دو سودا کرنا بہر
				خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ	بہتر ہے واسطے تمہارے اگر مومن جانتے پس جب تمام کجاوے سے

الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

نزد پس پھیل جاؤ بیچ زمین کے اور جاہو فضل

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا

خدا کے سے اور یاد کرو اللہ کو بہت تو کہ تم فلاح پاؤ اور جسوقت کہ دیکھتے ہیں

تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفصوا إليها وتركوا قَائِمًا

سوداگری یا تماشیا دوڑتے جاتے ہیں طرف اوسکی اور چھوڑ جا لے ہیں جھکو کھڑا

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ

کہو جو نزدیک اللہ کے سے بہت بہتر ہے تماشے سے اور سوداگری سے

وَاللَّهُ خَيْرٌ لِّلرَّزِقِينَ ○

اور اللہ بہت بہتر روزق دینے والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قُبِّرَ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفًا أَوْ اِنْقِصِرْ

اے کھڑا اور نہنے والی کھڑا رات کو مگر ٹھوڑا آدھی اوسکی یا کم کرے

مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

اوسین سے ٹھوڑا سا یا زیادہ کرے اور اترتے آتے یعنی واضح پڑھ قرآن آتے پڑھ

إِنَّا سَأَلْنَاكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا نَشَاءُ اللَّيْلَ

تجھیں ہم اب ڈالینگے اوپر تیرے بات بھاری تجھیں اٹھنا رات کا

هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا

وہ بہت سخت ہے کھلنے لفس کے ہیں اور بہت سیدھا کرنا ہے بات کو

فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

پس پڑھو جو میسر ہو قرآن سے

تبارک

المرمل

ا

=

=

=

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ	۲	المزمل	تبرک اللہ
پس پڑھو جو آسان ہو اس میں سے اور قائم رکھو نماز کو			
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا	۲	الذھر	۱
اور رات سے پس سجدہ کرو واسطے اوس کے اور تسبیح کر اوس کورات بڑی تک			
وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ	۱	اقراء	عظم
سجدہ کر اور نزدیک ہو			
وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ	۱	البتیة	عمر
اور قائم رکھیں نماز کو			
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ	۱	الماعود	۱
پس واسے ہے واسطے نماز پڑھنے والوں کے کہ وہ جو نماز اپنے سے			
سَاهَوْنَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ			
بیخبر ہیں وہ جو دکھلاتے ہیں لوگوں کو			
فَقُلْ لِرَبِّكَ		الکوثر	۱
پس نماز پڑھو واسطے پروردگار اپنے کے			
احکام ذکر و فکر و تسبیح و تکبیر و تحمید			
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ	۱۸	البقر	سیتقول
پس یاد کرو تم مجھ کو یاد کرونگا میں تم کو			
وَإِذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ	۲	ال عمران	ملاک اللہ
اور یاد کر رب اپنے کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح کو			

النَّاسِ	العن	۲۰	الَّذِينَ يَذْكُرُونَ لِقَاءَ اللَّهِ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
			وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور پر کھڑے اور ٹون اپنے کے
قَالَ لِلدَّ	اعراف	۲۲	وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
			اور فکر کرتے ہیں بیچ پیدایش آسمانوں کے اور زمین کے
وَمَا بَرَأ	اعراف	۲۲	وَأَذْكُرُوا لَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ
			اور یاد کر پروردگار اپنے کو بیچ جی اپنے کے عاجزی سے اور ڈر سے اور کھواڑ
بِجَهْرٍ			مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ
			اولیٰ سے بات سے جو کہ اور شام کو اور صمت ہو غافلوں سے یعنی بگڑے ہوئے
وَمَا بَرَأ	صد	۲۲	الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
			جو لوگ کہ ایمان لائے اور آرام پکڑتے ہیں دل انکے ساتھ یاد اللہ کے خردوار ہو ساتھ یاد اللہ کے
			تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝
			آرام پکڑتے ہیں دل
سَبِّحْ	فی آیتیں	۱۳	وَكَبِيرًا ۝
			اور بڑا ہی کر اسکو بڑا ہی کرنا
قَالَ	نور	۶	الْقُرْآنَ اللَّهُ كَسْبَةٌ لِّمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
			کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اللہ کو سب سے واسطے کے جو کوئی بیچ آسمانوں کے ہے اور زمین کے ہے
			وَالطَّيْرِ صَفِيًّا كُلِّ قَدِّعِلْمِ صَلَاتِكَ وَتَسْبِيحِهِ وَاللَّهُ
			اور جانور پر مذہب کہو لے ہو سے ہر ایک محنت جانتا ہے نماز اسکی اور تسبیح اسکی اور اللہ
			عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝
			جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں

وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ

۵

انزل ماور العنکبوت

اور اللہ یاد اللہ کی بہت بڑی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَجُودًا

۶

مریقت الاحزاب

ای لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی یاد کرنا بہت اور پاکی بیان کرو انکی

بَلَدَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

صبح اور شام وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے اور تمہارے اور فرشتے انکے

لِيُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ الْبُرُوقَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ

تو کہ نکالے تمکو اندھیروں سے طرف روشنی کے اور ہے ساتھ ایمان والوں کے

رَحِيمًا رَحِيمًا يَوْمَ يَقْبَلُونَ سَلَامًا وَأَعَدَّ لَهُمْ

مہربان دعا انکی جن دن ملاقات کریں گے اس سے سلام ہے اور تیار کیا ہے

أَجْرًا كَرِيمًا

ثواب بزرگ

إِنَّا نَسَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُ بِالْعِشِيِّ وَالْإِنْتِزَاقِ

۲

مالی ص

تجسّم سحر کیا ہم نے پہاڑوں کو ساتھ انکے کہ تسبیح کہتے تھے سورج ڈھلے اور سورج نکلے

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ

۱

فہن اظہ المؤمن

وہ لوگ جو اٹھارے ہیں عرش کو اور جو کوئی کہ گرد انکے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ

ساتھ تعریف رب اپنے کے اور ایمان لاتے ہیں ساتھ انکے اور بخشش مانگتے ہیں وہ مسلمان لوگوں کے

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

۶

= =

اور پاکی بیان کر ساتھ تعریف رب اپنے کے شام اور صبح کو

۳۷	الیہ یورد	۲	ومن یعش عن ذکر الرحمن فیض له شیطاناً
			اور جو کوئی شب کو ری کرے یا خدا کے سے مقرر کرتے ہیں ہم واسطی آئی ایک شیطان
			فہولہ قرین ○
			پس وہ واسطی اور کے ہمیشہ ہوتا ہے
	خطبہ	۲	قَسِبْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
	واقفہ		پس پاکی بیان کر ساتہ نام پروردگار اپنے بڑے کے
		۳	قَسِبْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ○
			پس پاکی بیان کر ساتہ نام پروردگار اپنے بڑے کے
		۱	سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
	الحدید		پاکی بیان کر ساتہ واسطی اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے ہے اور زمین کے
۳۸	قدس اللہ	۱	سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○
	الحشر		پاکی بیان کر ساتہ واسطی اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے اور وہی ہے غالب حکمت والا
		۱	سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○
	الصف		پاکی بیان کر ساتہ واسطی اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے اور وہی ہے غالب حکمت والا
		۱	سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
	الجمعة		پاکی بیان کر ساتہ واسطی اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے بادشاہ ہے بہت پاک
			الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○
			غالب حکمت
		۲	وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا
			اور یاد کرو اللہ کو بہت

۱	تغابن	۲۸	قَدْ شَرَفَهُ
یَسْبِغُ لِيهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ			
یا کی بیان کرتا ہے واسطے اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے واسطے اس کی ہے بادشاہی			
۱	المزمل	۲۹	تَبَارَكَ اللَّهُ
وَأَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ			
اور واسطے اس کی ہے سب تعریف اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے			
۱	المدثر	=	=
وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَسْبُلُ إِلَيْهِ تَبْيِلًا			
اور یاد کر نام پروردگار اپنے کا اور منقطع ہو طرف اس کے منقطع ہو جانے کو			
۲	الدھر	=	=
وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بَلْرَّةً وَأَصِيلًا			
اور یاد کر نام پروردگار اپنے کا بھراور شام			
۱	الاعل	۳۰	عَمَّ
سَبِّهِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى			
یا کی بیان کرتا ہے نام پروردگار اپنے بہت بلند کے جن نے پیدا کیا پس تندرست کیا			
۱	النصر	=	=
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ			
پہن یا کی بیان کرتا ہے نام تعریف پروردگار اپنے کے			
احکام و دعا			
	سورہ	رکوع	آیت
	سین	۲۳	۱
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا			
جواب دیتا ہوں بکار نکال بکار نئے والے کے جس وقت بکار تہے مجھ کو			
	اعراف	۷	۱
وَلَوْ أَنَّا أَعْرَفْنَا			
بکار پروردگار اپنے کو عاجزی سے اور جہاں کہ تحقیق وہ نہیں دوست رکھتا ہوں سے نکھانہا بکار			

<p>وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُواهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّمَّنْ يَدْعُونَ</p>			
<p>اور مت فساد کرو۔ بیچ زمین کے پیچہ درستی اُسکی کے اور</p>			
<p>وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا</p>	۲۲	اعراف	قَالَ اللَّهُ
<p>اور واسطے اللہ کے من نام اچھے پس پکارو اُسکو ساتھ اُنکے</p>			
<p>قُلْ مَا يَعْْبُودُكُمْ رَبِّي كَمَا لَدَعَاكُمْ</p>	۶	فرقان	قَالَ الَّذِينَ
<p>کہہ کہ زمین اختیار دیتا نکور میرا اگر نہوتی التجا ہماری</p>			
<p>أَمِنْ حَيْبِ الْمَضْطَرِّ إِذَا دَعَا هُوَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ</p>	۵	نمل	أَمْ خَلَقَ
<p>اما کون ہے کہ قبول کرنا ہے دعا مضطر کی جو وقت کہ پکارتا ہے اُسکو اور کہہ دیتا ہے بُرائی</p>			
<p>فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ</p>	۲	مومن	فَرِيطُونَ
<p>پس پکارو اللہ کو خالص کر دو واسطے اوسکے عبادت کو</p>			
<p>وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ</p>	۶	=	=
<p>اور کہا ہر دعا تمہاری دعا کرو مجھ سے قبول کرونگا واسطے تمہارا تھیں وہ لوگ کہ تکبر کرتے ہیں</p>			
<p>عَنْ عِبَادِي سَائِدًا خُلُونِ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ</p>			
<p>عبادت میری سے سنا جائے ہوں گے دوزخ میں ذیل ہو کر</p>			
<p>هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ</p>	۷	=	=
<p>وہ ہے زندہ ہمیں کوئی معبود مگر وہ پس پکارو اُسکو خالص کر دو واسطے اوسکے عبادت کو</p>			
<p>يَسْأَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ</p>	۲	الرحمن	قَالَ فَاحْطَرِكِ
<p>اگتا ہے اس سے جو کوئی بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے ہر ذرہ بیچ ایک شان کے ہے</p>			

عم	الانشراح	۱	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝
			پس جب فارغ ہو تو پس صحت کریم عبادت کے اور طرف رسا پنے کے پس رحمت کر
حکم طلب رزق از خدا			
امر خلق	العنکبوت	۲	فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
			سو تم ڈھونڈو اللہ کے یہاں روزی
ادعیه			
سیارہ	سورت	رکوع	آیات
الم	البقرہ	۱۵	رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَ
			ای رب ہمارے قبول کر جسے تحقیق تو ہے سنے والا جاننے والا اسے رب ہمارے
			اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
			کر ہم دونوں کو مطیع واسطے لینے اور اولاد ہماری سے ایک جماعت فرمان بردار
			لَكَ وَإِنَّا لَمَنَّا سِکَنًا وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
			واسطے لینے اور دکھا ہو کہ طرح عبادت ہمارے اور ہمارے اور ہمارے تحقیق تو ہے تو ہر آئینہ والا مہربان
سے قول	=	۲۵	رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
			ای پروردگار ہمارے دے ہم کو بیچ دنیا کے بہلائی اور بیچ آخرت کے بہلائی اور بچا ہو
			عَذَابِ النَّارِ ۝
			عذاب آگ کی سے
		۳۳	رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا
			اسے پروردگار ہمارے ڈال اور ہمارے صبر اور ثابت رکھ کہہ قدم ہمارے کو اور دوسے ہمارے

وہا حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام

ہماری نونہان
شکر طاعتوں

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

اور قوم کافروں کے

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

سنائے اور مانائے بخشش مانگتے ہیں ہم تمہاری سے رب ہمارے اور طرف تیرے ہی پرانا

رَبَّنَا لَا تَوَخُّذْنَا إِنَّ نَسِيبَنَا وَآخِطَانَا بَيْنَنَا

ای رب ہمارے مت پرہیز نہ کرو اگر پہول گئے ہم یا چون گئے ہم ای رب ہمارے

وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى

اور مت رکھنا ہمارے بوجھ جیسا رکھتا تھے انکو اور

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ

ان لوگوں کے کہ پہلے تھے ای رب ہمارے اور مت اٹھو ایسے وہ چیز کہ نہیں طاقت

لَنَا بِهِ طَاعَةٌ وَأَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْنَا وَإِلْحَمًا

مدا سے ہمارے ساتھ اس کے اور معاف کر ہم سے اور بخش بہکو اور رحم کر ہم سے

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

تو ہے دوستدار ہمارا پس مدد دے بہکو اور قوم کافروں کے

رَبَّنَا لَا تُزِغْنَا فَوْقَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

اسے پروردگار ہمارے مت کج کر دلوں ہمارے کو پیچھے اس کے کہ راہ دکھائی تو نے بہکو اور دے

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

بہکو اپنے پاس سے رحمت تحقیق تو ہے دے دالنے والا

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۝

اسے رب ہمارے تحقیق تو اکٹھا کرے گا لوگوں کو اس دن کہ نہیں شک ہے اس کے

تلا علیہم النقم

= = =

الاعوان =

۱۱۹
دعا ہے کہ
ای رب ہمارے
دعا ہے کہ
دعا ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

نہیں خلاف کرتا وعدہ کو

رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور بچاؤ عذاب آگ کے سے

قُلْ لَكُمْ مَلِكُ الْمَلِكِ نُورِي لَكَ مِنْ تَشَاءُ وَ

کہہ یا اللہ مالک ملک کے دیتا ہے تو ملک

تَنْزِعُ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ وَتَعْرِضُ مِنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّ مَنْ

چھین لیتا ہے تو ملک جس سے چاہے اور عزت دیتا ہے جسکو چاہے اور ذلت دیتا ہے جسکو

تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

چاہے نفع یا تیرے کے ہے پہلائی تحقیق تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے

لَوْجِ الْبَيْلِ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّى الْبَيْتِ فِي اللَّيْلِ وَ

پہنھاتا ہے رات کو بیچ دن کے اور پہنھاتا ہے دن کو بیچ رات کے اور

كُفْرًا وَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تَكْرِهُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ

نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے

وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

اور رزق دیتا ہے جسکو چاہے بے شمار

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ

اے پروردگار میرے دے ڈال داسے میرے نزدیک اپنے سے اولاد پاکیزہ

سَمِيعٌ الدُّعَاءِ ۝

سننے والا دعا کا ہے

دعا یقینان

تلك الامل

۲

۳

۳

۵

۴

۴

۴

دعا زکریا علیہ السلام

تِلْكَ آيَاتُ الْعَمْرَيْنِ	<p>رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا</p> <p>اے پروردگار ہمارے ایمان لائے ہم ساتھ اسیجیز کے کہ تماری توفی اور سیر کی مہنے رسول کی پس لکھو</p> <p>مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝</p> <p>ساتھ شاہدوں کے</p>
لَكُنَّا	<p>رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا</p> <p>ای رب ہمارے بخش واسطے ہمارے گناہ ہمارے اور زیادتی ہماری بیج کام ہمارے کے</p> <p>وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝</p> <p>اور ثابت رکھ قدم ہمارے اور دوسے جھکو اوپر قوم کافروں کے</p>
لَوْ تَبَيَّنَا	<p>حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝</p> <p>کفایت ہے جھکو اللہ اور اچھا کارساز ہے</p>
لَوْ تَبَيَّنَا	<p>رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قِنْنَا</p> <p>اے پروردگار ہمارے نہیں پیدا کیا تو نے یہ بے فائدہ پاکی ہے جھکو پس بجا جھکو</p> <p>عَذَابِ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلُ النَّارَ</p> <p>غداپ آگ سے اے رب ہمارے تحقیق تو جھکو داخل کرے آگ میں</p>
لَوْ تَبَيَّنَا	<p>فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا</p> <p>پس تحقیق رسوا کیا تو نے اسکو اور نہیں واسطے ظالموں کے کوئی مددگار ای رب ہمارے</p> <p>إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا</p> <p>تحقیق مہنے سنا جھکارنے والا جھکارتا تھا طرف ایمان کے یہ کہ ایمان لاؤ</p>
لَوْ تَبَيَّنَا	<p>بِرَبِّكُمْ فَاذْكُرُوا رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا</p> <p>ساتھ رب اپنے کے پس ایمان لائے ہم اے پروردگار ہمارے پس بخش جھکو گناہ ہمارے اور دکر مہے</p>

دعا علی السلام

ربینوں کی دعا

دعا ربینوں

پہنچوں دعا میں

عزیز علیہ السلام

مخالفان اور کفار

رضی اللہ عنہم

س میں

سَيِّئَاتِنَا وَتَوْفَاتِنَا مَعَ الْاِبْرَارِ رَبَّنَا وَانْتِمَا وَعَدْنَا

برائیوں اور ہمارے نیکو بات نہیکھتوں کے اسے پروردگار ہمارے اور وی ہمارے جو کچھ وعدہ کیا ہے

عَلَىٰ رَسِيكَ وَلَا تَنْزِيًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْعَهْدَ

ہم پر پیمانوں پہننے کے اور مت رسوا کر ہمارے دن قیامت کے تحقیق تو نہیں خلاف کرنا وعدہ کو

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا

ای پروردگار ہمارے نکال ہمارے اس شہر سے کہ ظلم کرنے والے ہیں

وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

اور کرو واسطے ہمارے نزدیک اپنے سے دوست اور کرو واسطے ہمارے اپنے پاس سے مددگار

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَقَالْنَا لَا نُؤْمِنُ

اے رب ہمارے ایمان لائے ہم ہیں کہہ ہمارے ساتھ شاہدوں کے اور کیا ہے ہمارے کہ نہ ایمان لاؤں ہم

بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَضْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا

ساتھ اللہ کے اور ساتھ اور چیز کے کہ آئی ہمارے پاس حق سے اور طمع رکھتے ہیں ہم یہ کہ وہ داخل کریں

رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝

رب ہمارے ساتھ قوم صالحوں کے

رَبَّنَا انزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ

اے پروردگار ہمارے آتا اور ہمارے آسمان سے جو دے

لَنَا عَيْدًا اِلَّاؤَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا

واسطے ہمارے عید اول ہمارے کو اور آخر ہمارے کو اور نشانی تیری عرضے اور رزق دے

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

اور تو بہتر رزق دینے والا ہے

وَمَا سَلَّمُوا مِنْ دَامِ شَرِيكَ دَابَّاسِ

وَمَا سَلَّمُوا مِنْ دَامِ شَرِيكَ دَابَّاسِ

وَمَا سَلَّمُوا مِنْ دَامِ شَرِيكَ دَابَّاسِ

<p>رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَرَحْمَتَا</p>	۴	قَالَ اَعْرَافُ
<p>اسے رب ہمارے ظلم کیا ہے جانوں اپنی کو اور اگر نہ بخشے گا تو ہمکو اور نہ رحم کرے گا تو ہمکو</p> <p>لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝</p>		
<p>الغتر ہو جاؤ گے ہم ٹوٹا پانے والوں سے</p> <p>رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝</p>	۵	=
<p>اسے رب ہمارے مت کرے جو ساتھ قوم ظالموں کے</p> <p>رَبَّنَا افْرِغْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ</p>	۱۱	قَالَ الْمَلَأُ
<p>ای پروردگار ہمارے حکم کر درمیان ہمارے اور درمیان قوم ہماری کے ساتھ حق کے اور تو</p> <p>خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝</p>		
<p>بہتر حکم کرنے والا ہے</p> <p>رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُّسْلِمِيْنَ ۝</p>	۱۵	=
<p>اسے پروردگار ہمارے صبر اور توفیق مسلمان کو کر</p> <p>رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَكَافِرِيْمْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ</p>	۱۸	قَالَ اَعْرَافُ
<p>اسے پروردگار میرے بخشے ہوئے اور میرے کو اور داخل کرے جو رحمت اپنی کے</p> <p>وَأَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝</p>		
<p>اور تو بہت رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں کے</p> <p>أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ۝</p>	۱۹	=
<p>تو ہے دوست ہمارا پس بخشے ہوئے اور رحم کرے اور تو بہتر بخشنے والا ہے</p> <p>وَالنَّبِيْنَا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِيْ الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَّاكَ</p>		
<p>اور حکم دے گا ہمیں اس دنیا کے نیکی اور ہم انہی کے خلیق بننے تو بہ کی طرف ترے</p>		

۹	انفال	۵	نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝
			اچھا دوست ہے اور اچھا مدد دینے والا
۱۰	توبہ	۱۶	حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
			کفایت ہے مجھکو اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ اور اس کے توکل کیا میں نے اور وہ پروردگار
			الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝
			تخت بڑے کا
۱۱	یونس	۹	عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
			اور اللہ کے توکل کیا ہم نے ای رب ہمارے مت کرہو فتنہ واسطے قوم ظالموں کے
			وَجِنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝
			اور نجات دے ہمکو ساتھ رحمت اپنی کے قوم کافروں سے
	ہود	۲۷	بِسْمِ اللَّهِ جَبْرٌ لَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝
			یعنی خدا کا نام لیتے ہوئے کشتی چلانے کے وقت اور اسی روکنے کے وقت بچھن رب میرا بچھنے والا مہربان ہے
			رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۝
			ای پروردگار میرے بچھنے میں پناہ ہوں ساتھ تیرے یہ کہ سوال کروں میں تجھے اس چیز کا نہیں مجھکو علم ساتھ
			وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
			اور اگر نہ بخشیدگا تو مجھکو اور نہ رحم کریگا تو مجھکو تو ہو جاؤں گا میں ٹوٹا پانے والوں سے
	یوسف	۱۱	قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيُّ فِي الدُّنْيَا وَ
			ای پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے تو ہی ہے دوست یعنی کارساز نیرا چودہا کے اللہ
			الْآخِرَةِ تَوْفِئِي مُسْلِمًا وَآلِ الْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ ۝
			آخرت کے قبض کر مجھکو مسطیع اپنا اور ملا دے مجھکو ساتھ صالحوں کے

صفات اللہ

دعا یونس
استغفردعا یونس
توکل علیہ السلامدعا یونس
یوسف علیہ
السلام

ما ابری	ابرهیم	۴	لَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَمَا نَعْنُ وَمَا يَخْفَى
			اے رب ہمارے مخفی تو جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور نہیں پوشیدہ
			عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝
			اوپر اللہ کے کچھ نیچے زمین کے اور نہ نیچے آسمان کے
			اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاۗءِ ۝
			تحقیق پروردگار میرا اللہ سنے والا دعا کا ہے
			رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا
			ای رب میرے کہ مجھ کو قائم رکھنے والا نماز کا اور اولاد میری سے ای رب میرے
			وَتَقَبَّلْ دُعَاۗءِ رَبَّنَا عَفْرٰىٓ وَاِلٰى رَبِّكَ
			اور قبول کر دعا میری اسے رب ہمارے بخش مجھ کو اور مان باب میرے کو اور
			لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يُقَوْمُ الْحِسَابِ ۝
			سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہوئے حساب
سبحان اللہ نبی اسلم	۹	رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ	
			ای رب میرے داخل کر مجھ کو داخل کرنا سچا اور نکال مجھ کو نکالنا
			صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا تَصِيْرًا ۝
			سچا اور کروا سٹے میرے نزدیک لینے سے غلبہ مرد دینے والا
			وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ
			اور کہہ آیا سچ اور نکل بہاگا جھوٹ بیشک جھوٹ تہ نکل بہاگے
			زَهُوْقًا وَاَنْزِلْ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَرَحْمَةٌ
			والا اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے روک چکے ہوں اور رحمت

دعا حضرت
ابا بکر علیہ السلام

بھیجا

ابھیجا

لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ الْإِحْسَانَ

ایمان والوں کو اور گنہگاروں کو بھی بڑھتا ہے نقصان

رَبَّنَا إِنَّا أَمِنَ لَدَيْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ رَبِّنا

اے رب ہمارے دے ہو پاس اپنے سے رحمت اور تیار کرو اسلئے ہمارے کام ہمارے

رَشَدًا

سے بھلائی

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

جو چاہا خدا نے یعنی وہ ہوتا ہے نہیں قوت مگر ساتھ اللہ کے

رَبِّ انْشُرْ خَلِيَّ صَدْرِي وَوَسِّرْ لِي أَمْرِي

اے رب میرے کو دل سے واسطے میرے سینہ میرا اور آسان کرو واسطے میرے کام میرا

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

اے رب میرے زیادہ دے مجھ کو علم

إِنِّي مَسْنِي الصُّلَى وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

تجھ میں جھک رہا ہوں ہے ایذا اور تو بہت مہربان ہے مہربانی کر نبیوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

نہیں کوئی معبود مگر تو پاکی ہے تجھ کو تجھ میں تین تھا ظالموں سے

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

اے پروردگار ہمارے مت چھوڑ مجھ کو اکیلا اور تو بہتر وارثوں کا ہے

وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

اور پروردگار ہمارا مہربان خدا کا گیا ہے اور پر آپہنر کے کہ بیان کرتے ہو

ہاں اللہ کے سبب لکھ

دعا ہے ہماری

دعا ہے حضرت نبی

دعا ہے حضرت ابراہیم

دعا ہے حضرت یونس

دعا ہے حضرت زکریا

قَدَّافِرٌ	مَوْعِدُونَ	۲	قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَخَسَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
=	=	=	تو کہہ سب تریف خدا کے واسطے ہے جسے نجات دی ہیں ظالموں کی قوم سے
=	=	=	رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَرَّكَ گَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
=	=	=	ای رب میرے آثار چھکو اتارنا مبارک اور تو بہتر اتارنے والا ہے
=	=	۶	رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
=	=	=	اے پروردگار میرے پس مت کیچھو چھکو بیچ قوم ظالموں کے
=	=	=	رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ أَعُوذُ
=	=	=	اے پروردگار میرے بنا مانگتا ہوں میں ساتھ تیرے دوسوہ ڈالنے شیطانوں کے سے اور شاہ
=	=	=	يَا رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
=	=	=	مانگتا ہوں میں تجھے اے رب میری اس سے کہ حاضر ہوں میرے پاس
=	=	=	رَبَّنَا آمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
=	=	=	ای پروردگار ہمارا ایمان لائے ہم پس بخش چھو اور رحمت کر چھو اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے
=	=	=	رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
=	=	=	ای پروردگار میرے بخش اور رحم کر اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے
وَقَالَ الَّذِينَ	فَقُلْنَ	۶	رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا
=	=	=	ای پروردگار ہمارے پھیر دے جیسے عذاب دوزخ کا محقق عذاب اُسکا ہے
=	=	=	كَانَ عَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
=	=	=	ہے لازم ہو جانے والا محقق وہ بڑی ہے جگہ قرار کی اور رہنے کی
=	=	=	رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
=	=	=	ای رب ہماری بخش چھو جوڑوں ہمارے سے اصا اولاد ہمارے سے خلی آنکھوں کی

اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ

ای رب

اے پروردگار میرے پاس

ای رب

وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

اور کہ بھگو پر بہر گاروں کا پیشوا

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَكْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ

اسے پروردگار میرے بخش بھگو حکم اور بلا دے بھگو ساتھ صاحبوں کے اور کروا دے میرے

لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ مَوْلَدِ

زبان راستی کی بیچ بچھلون کے اور کہ بھگو وارثوں

جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

بہشتوں نعمت کی سے اور بخش واسطے مان باپ میرے کے بخش وہ تھا گراہوں سے

وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ كَوْمًا لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا

اور مت رسوا کیجو بھگو اسدن کہ اٹھاسے جاوینکے جبدن کہ نہ نفع دیگا مال اور نہ

بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنَّا إِلَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

بیٹے مگر جو کوئی لاوے اللہ کے پاس دل سلامت

رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّابُونَ ۝ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

اے رب میرے بخش قوم میری نے جھٹلایا بھگو پس حکم کرو درمیان میں اور درمیان انکا

فَتْحًا وَبَيْنَهُمْ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

حکم کرنے کو اور بجات دے بھگو اور ان لوگوں کو کہ ساتھ میرے ہیں ایمان والوں سے

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝

اے رب پروردگار میرے بجات دی بھگو اور اہل میرے کو بچھڑے کہ کرتے ہیں

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

انجی بچھڑے تو میں دی بھگو یہ کہ شکر کروں نعمت تیرا جو نعمت رکھی ہے توئی اوپر میرے اور اوپر

وقال الله

وقال الله
حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام

وقال الله
حضرت نوح علیہ السلام

وقال الله
حضرت یونس علیہ السلام

وَالِدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ

ان باپ میرے کے اور یہ کہ عمل کرو نہیں نیک جو پسند کرے تو اسکو اور داخل کرو مجھکو ساتھ رحمت اسی کے

فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○

بیچ بندوں اپنوں صالحوں کے

رَبِّ اِظْلَمْتُ نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ سَيِّئِينَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

اسے پروردگار میرے تحقیق میں نے ظلم کیا جان اپنی کو اور مطیع ہوئی ساتھ سیئانوں کے واسطے اسی پروردگار

رَبِّ اِذْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

ای رب میرے تحقیق میں نے ظلم کیا جان اپنی کو پس بخش مجھکو

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

ای رب میرے نجات دے مجھکو قوم ظالموں کی سے

رَبِّ اِنِّي لِمَا نَزَلَتْ اِلَيَّْ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ○

ای رب میرے تحقیق میں واسطے اچھیز کے کہ اتاری تو نے طرف میرے بہلائی سے محتاج ہوں

رَبِّ اَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ○

ای رب میرے مدد دے مجھکو اور قوم مفسدون کے

فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ

پس پاکی ہے اللہ کو جو وقت کہ شام کرتے ہو تم اور جو وقت صبح کرتے ہو تم اور واسطے اوسکی ہے

الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ○

سب تعریف بیچ آسمانوں کے اور زمین کے اور تیسرے پہر اور جب ظہر کرتے ہو تم

يُنزِلُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

نکاقلہ ہے زندہ کو مرے سے اور نکالتا ہے مرے کو زندہ سے

وَالصَّالِحِينَ

وَالصَّالِحِينَ

وَالصَّالِحِينَ

وَالصَّالِحِينَ

وَالصَّالِحِينَ

وَالصَّالِحِينَ

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

اور جلاتے ہیں زمین کو پیچے موت اور یکے اور اس طرح نکالے جاؤ گے تم

رَهَبٌ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

ای رب میرے بخش مجھ کو اولاد صالحوں میں سے

قُلْ لَكُمْ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ ۝

کہہ کہ ای اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے جاننے والے پوشیدہ کے

وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَمَا كَانُوا

اور ظاہر کے تو ہی حکم کریگا درمیان بندوں اپنے کے بیچ اچھڑ کے کہتے

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

بیچ اُسکے اختلاف کرتے

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ

ای پروردگار ہمارے سہایا تو نے ہر چیز کو رحمت کر اور علم کر پس بخش واسطی ان لوگوں کے

تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

کہ توبہ کی اور پیروی کی راہ تیری کی اور بچا انکو عذاب دوزخ کے سے

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ

اے پروردگار ہمارے داخل کر انکو بہشتوں بیش رہنے کی میں جو وعدہ دیا ہے تو نے انکو

وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

اور جو لائق بہشت کے ہیں باپوں اُنکے سے اور بیویوں اُنکے سے اور اولاد اُنکی سے

أَنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَلِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ

محقق تو ہی سے غالب حکمت والا اور بچا انکو برائیوں سے اور جھکو

دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام

دعا سلطان عرش

تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ

بچایا تو نے برائیوں سے اور دن پس تحقیق مہربانی کی تو نے

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

اور یہ بات وہی ہے مراد پانا بڑا

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا دِينَ أَبِي بَدْرٍ

اور سو پنتا ہوں میں کام اپنا طرف اللہ کے تحقیق اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو

رَبِّ وَزِعْنِي أَنْ شَكَرْتُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

آئی رب میرے تو فہم دے مجھ کو یہ کہ شکر کروں میں نعمت تیری کا وہ جو انعام کی ہے توئی اور میرے

وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي

اور اوپر ماں باپ میرے کے اور یہ کہ عمل کرو میں نیک جو پسند کرے تو اسکو اور صلاح کر دے میرے

فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي اتَّبَعْتُكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

بیچ اولاد میری کے تحقیق میں نے توبہ کی طرف تیرے اور تحقیق میں مسلمانوں سے ہوں

إِنِّي مَغْلُوبٌ وَمَنْ نَصَّرَكَ

تحقیق میں مغلوب ہوں پس بدلا لے میرا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

ای پروردگار ہمارے بخش ہمکو اور بہائیوں ہمارے جو وہ جاگے لائے ہم سے ایمان

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

اور مت کر بیچ دلوں ہمارے برائی واسطے ان لوگوں کے کہ ایمان لای ای رب ہمارے تحقیق تو ہی ہے

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

ای رب ہمارے اوپر تیری توکل کیا ہم نے اور طرف تیرے رجوع کی ہم نے اور طرف تیرے سے ہر جانا

وہاں تک

وہاں تک حضرت صدیق اکبر

وہاں تک حضرت نوح

وہاں تک حضرت ابراہیم

وہاں تک حضرت اسماعیل

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا

ای رب ہمارے مت کر بھکو فتنہ واسطے ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے اور بخش بھکو ہی

رَبَّنَا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ای رب ہمارے تحقیق تو ہے غالب حکمت والا

رَبَّنَا أَنْتَ تَعْلَمُ سِرُّنَا وَأَعْفِرْ لَنَا أَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ای پروردگار ہمارے پورا کرو واسطے ہمارے نور ہمارا اور بخش کر واسطے ہمارے تحقیق تو اوپر ہر چیز کے

رَبِّ ابْنِ عِمْرَانَ إِذْ بَدَأَهُ فِي بَيْتِهِ فِي الْجَنَّةِ وَنَجَّى مِنْ فِرْعَوْنَ

ای رب میرے باوا واسطے میرے نزدیک اپنے گہریم بہشت کے اور نجات دی بھکو فرعون سے

وَعَمَلِهِ وَنَجَّى مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

اور عمل اُسکے سے اور نجات دے بھکو قوم ظالموں سے

رَبَّنَا أَسِئَلُكَ خَيْرَ مَا آتَيْتَنَا يَا رَبَّنَا رَاعِبُونَ ۝

پروردگار ہمارا یہ کہ بدلا دے بھکو بہتر اس سے تحقیق ہم طرف پروردگار اپنے کے رحمت کرنوالی ہیں

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مِنَ

ای پروردگار میری بخش بھکو اور واسطے ماں باپ میرے اور واسطے اُس شخص کے کہ داخل ہو میرے

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝

اور واسطے سب ایمان والوں کے اور سب ایمان والیوں کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام بخشش کرنوالے مہربان کے بکہ بنا بکہوتا ہوں ساتھ پروردگار مہربان کے

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

بائی اُس چیز کی سے کہ پیدا کیا ہے اور بانی اندھیرہ کرنیوالی کی سے جو حق چھپ چاہوے

دعا مؤمنین

دعا اکتیس بنی زراہم

دعا دربار باغ صفوان

دعا حضرت زوم علیہ السلام

وَمِنْ شَرِّ النَّفْسِ فِي الْعُقَدِ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ		
اور بُرائی پہونکنے والیوں کی سے بیچ گروہوں کے اور بُرائی حسد کرنے والی کے سے		
إِذَا حَسَدَ ۝		
جب حسد کرے		
عَمَّ	النَّاسِ	۱
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ		
شروع کرنا ہو بہین ساتھ نام اللہ بخشش کرنیوالے مہربان کے کہہ بنا دیکر نا ہو بہین ساتھ پروردگار لوگوں		
مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ		
بادشاہ لوگوں کے معبود لوگوں کے بُرائی دوسوہ ڈالنے بُرائی دوسوہ ڈالنے والی		
الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوقِ		
چھپے ہٹ جانے والے کن سے جو دوسوہ ڈالتا ہے بیچ سینہ		
النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝		
لوگوں کے جنوں میں سے اور آدمیوں میں سے		
احکام آداب تلاوت و فضیلت قرآن شریف		
سیارہ	سورت	رکوع
الم	البقرہ	۱۲
فَإِنَّ نَزْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ		
پس تحقیق اسنے اُتار ہے اور پر دل تیرے کے ساتھ حکم اللہ کے		
قال اللہ	اعراف	۲۷
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا		
اور جب پڑھا جاوے قرآن پس سنو اور ٹھیکے رہو		
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝		
تو کہ تم رحم کیجھاؤ		

ربما	الحجر	۱	إِنَّمَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝
			تحقیق ہم نے اذرا ہے ذکر یعنی قرآن اور ہم ہیں واسطے اسکے البتہ نگہبان
ربما	الأنحل	۱۳	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
			پس جب پڑھے تو قرآن پس پناہ مانگ ساتھ اللہ کے شیطان
			الرَّجِيمِ ۝
			راہے گئے سے
وقال الذی	الشعر	۱۱	تَنَزَّلُ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ
			اُتْرَا ہے ساتھ اُسکے روح الامین یعنی جبرئیل اوپر دل تیرے کے تو کہہ تو
			مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝
			ڈرانے والوں سے
امخو	القصر	۹	إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا
			تحقیق جس شخص نے مقرر کیا ہے تیرے اوپر حکم قرآن کا البتہ پھر لیا نوا لایے تم کو لوٹنے
وزنقت	الفاطر	۴	لَمْ نُرِثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
			پہر وارث کیا ہم نے کتاب کا اُن لوگوں کو کہ برگزیدہ کیا ہم نے بندوں اپنے سے
اليه يرد	الدخان	۱	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝
			تحقیق اُتْرَا ہم نے اس قرآن کو بیج رات برکت والی کے تحقیق ہم ہیں اُتْرَا نے والے
			فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أُمَّةٍ بِحُكْمِهَا وَمَنْ عَدَاْنَا أَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ ۝
			ہج اسکے فیصل کیا جاتا ہے ہر کام حکمت والا حکم نزدیک ہماری ہی تحقیق ہم ہیں بھیجے والے
خطبک	واقعه	۳	إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمُسْمِعُونَ
قال فما			تحقیق یہ پڑھنے کی چیز ہے بالامت ہیج کتاب پوشیدہ کے نہیں ہاتھ لگاسے اسکو مگر پاک لوگ

۳۰	عَمَّ الْقَدْرَ ۱	اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
		حقیق نازل کیا جسے قرآن کو بیچ رات قدر کے
خدا کے کلام سُکرا آشوبہا نا علامت ایمان ہے		
سیارہ	سورہ	آیات
۷	مائدہ	۱۲
واذ سمعوا		وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ
		اور جب سنیں جو اُترا رسول پر
		أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
		انکی آنکھیں اُبلتی ہیں آنسوؤں سے
		راہبر جو پہچانی بات حق
احکام تعمیر مساجد و زینت عند المساجد و منع سعی تخریب مساجد		
سیارہ	سورہ	آیات
۱۲	البقرہ	۱۲
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ		اور کون ہے بہت ظالم اُس شخص سے کہ منع کرتا ہے مسیح کو یہ کہ ذکر کیا جاوے
		فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ
		سچانکے نام ایسا اور سعی کرتا ہے بیج و بیلان کرنے اور نیکے یہ لوگ نہیں لایق تھا
		لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
		داسطے انکے کہ داخل ہوں اُسین مگر ڈرتے ہوئے داسطے انکے ہے بیج دینا کے
		خِزْيٌ وَهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
		رسوالی اور داسطے انکے بیچ آخرت کے عذاب ہے بڑا
۳	اعراف	۳
يَبْنِي وَادَّخَلُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ		ای بیٹوں آدم کے لوزینت اپنی نزدیک ہر نماز کے

واعلموا

توبۃ

۳

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ

ہیں لایق واسطے مشرکوں کے یہ کہ آباد کریں مسجدوں اللہ کی کو

شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ

حالانکہ گواہی دیتے ہیں اور جانوں اپنی کے ساتھ کفر کے یہ لوگ ناپید

أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ

عمل انکے اور بیچ آگ کے وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں سوای اہل نبی کہ آباد کریں مسجد

اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

اللہ کی کو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے اور دن پھیلے کے اور قائم رکھتے ہیں نماز کو

وَأَتَىٰ الزَّكَاةَ وَكُنَّخَشَاءَ لِلَّهِ فَلْيَسِّرْ لَكَ

اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو اور نہیں ڈرتے مگر اللہ سے پس نزدیک ہے یہ لوگ

أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

یہ کہ ہودین راہ پائے والوں سے

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَهُ وَيَدُلَّ كُرْهِيًا

بیچ گھروں کے حکم کیا اللہ نے کہ بلند کیے جاویں اور یاد کیا جاوے بیچ اسکے

اسْمًا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۚ

نہم اسکا تسبیح کرتے ہیں واسطے اسکے بیچ انکے صبح کو اور شام کو

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنَ

وہ مرد کہ نہیں غافل کراتی انکو سوداگری اور نہ بیچنا

ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ يَخَافُ

باد خدا کی سے اور قائم کرنے نماز کی سے اور دینے زکوٰۃ کی سے ڈرتے ہیں

قذافہ

تور

۵

يَوْمًا تَقْلِبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝			
اس دن سے کہ پہر جاوینگی بیچ آسکے دل اور آنکھیں			
تَبْرَكَ الَّذِي	الجن	۱	وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝
اور یہ کہ مسجد میں واسطے اللہ کے ہیں پس مت پکارو ساتھ اللہ کے کیسکو			
احکام استغفار و توبہ			
آیات			
سیارہ	سورۃ	رکوع	تَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ ۝
۴	البقر	۶	پس توبہ کرو طرف پیدا کرنے والے اپنے کے
لِنُنَّا	العن	۱۲	وَسَاءِ عَوًّا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
اور جلدی کرو طرف بخشش پروردگار اپنے کے اور بہشت کے			
عَرْضَهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝			
کہ چوڑاؤ آسکا آسمان اور زمین تیار کی گئی ہے واسطے پرہیزگاروں کے			
الَّذِينَ يَفْقَهُونَ فِي الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالْكَاطِبِينَ			
جو لوگ کہ فہم کرتے ہیں بیچ خوشی اور سختی کے اور بند کرنے والے			
الْغِيظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝			
غصہ کے اور معاف کرنے والے لوگوں سے اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو			
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ			
اور وہ لوگ جب کریں بے حیالی یا ظلم کریں جانوں اپنی کو			
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ			
یاد کریں اللہ کو پس بخشش مانگیں واسطے گناہوں اپنے کے اور کون بخشا ہے			

الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا

گناہوں کو گمراہی اور نہ ہٹ کرین اور پراویجہز کے کہ کیا

وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جِزَاءُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

اور وہ جانتے ہیں یہ لوگ جلا اور کا بخشش ہے

مِن رَّبِّكَمْ وَجَنَّتْ جُزَيْرٌ مِنْ حَتَّىٰ الْأَخْرَافِ

رب انکے سے اور بہشتین جلتی ہیں نیچے انکے سے ہرین

خَلِيلِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝

ہمیشہ رہنے والے بیچ انکے اور اچھا ثواب عمل کرنے والوں کا ہے

وَاللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ

اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ پھر آوے اور تمہارے

والمحصد النساء ۵

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْمِرْ نَفْسًا لَمْ يَغْفِرَ اللَّهُ

اور جو کرے کام بُرا یا ظلم کرے جان اپنی کو پھر بخشش مانگے اللہ سے

يَجِدَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

پاویگا اللہ کو بخشش والا مہربان

۱۶

۵

۵

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

کیا پس نہیں توبہ کرتے طرف اللہ کے اور نہیں بخشش مانگتے اس سے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۱۰

مائتہ

کابجہ اللہ

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا

اور جنہوں نے عمل کئے بُرے پھر توبہ کی سچے اسکے اور ایمان لائے

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

تبتیق پروردگار تیرا سچے اسکے البتہ بخشنے والا مہربان ہے

۱۹

اعراف

قال اللہ

= انفال ۴	<p>وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعِدًّا بِكُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ ○</p> <p>اور نہیں تھا اللہ مدد کرنے والا آگے اور وہ ہوں بخشش مانگتے</p>
جتدار کا ہود ۱	<p>وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ لَتَرْبُوهُنَّ إِلَىٰ يَتِيمَاتٍ مَّتَّاعًا</p> <p>اور یہ کہ بخشش مانگو پروردگار اپنے سے بہر تو بہ کر طرف اسکے فائدہ دیکھا نگو فائدہ</p>
اجہا ایک وقت مقرر تک اور دیکھا ہر ٹہری والے کو بڑائی اور کمی	<p>حَسًّا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلَةٍ</p>
۵ =	<p>وَيَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ لَتَرْبُوهُنَّ إِلَىٰ يَتِيمَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ</p> <p>اور ای قوم میری بخشش مانگو پروردگار اپنے سے بہر تو بہ کر طرف اسکے ہیچ نہ دیکھا نگو</p>
اوپر تمہارے برسنے والا اور زیادہ دیکھا نگو زور طرف زور تمہارے کے اور تمہارے	<p>عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا</p> <p>مُجْرِمِينَ ○</p> <p>گنہگار ہو کر</p>
۶ ہود	<p>فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ لَتَرْبُوهُنَّ إِلَىٰ يَتِيمَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ</p> <p>بس بخشش مانگو اس کے بہر تو بہ کر طرف اسکے جھٹق پروردگار میرا نہ بد کے دعا قبول کرنا</p>
۸ =	<p>وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ لَتَرْبُوهُنَّ إِلَىٰ يَتِيمَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ</p> <p>اور بخشش مانگو پروردگار اپنے سے بہر تو بہ کر طرف اسکے جھٹق رب میرا میرا ہیچ دوستدار</p>
۱۵ نمل	<p>تَرَانِ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا</p> <p>پہر جھٹق پروردگار تیرا واسطے ان لوگوں کے کہ کرتے ہیں برائی ساتھ نادانی کے بہر تو بہ کرتے ہیں</p>
عجے اسکے اور ٹہری کرتے ہیں جھٹق پروردگار تیرا ہیچ اسکے	<p>مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحْ لِي رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا</p>

لَقَوْلِ الرَّحِيمِ ۝

ابستہ بخشنے والا مہربان ہے

إِلَّا مَنْ تَابَ

مگر جس نے کہ توبہ کی

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ

پس جس شخص نے کہ توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے ایسے پس امید ہے کہ

يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝

ہو ظاہر یا نیکوالوں سے

عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ

بخشنے والا گناہ کا اور قبول کرنے والا توبہ کا سخت کرنے والا عذاب کا

ذِي لَطْفٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

صاحب انعام کا نہیں کوئی معبود مگر وہ طرف اوسکے ہے پھر جانا

وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ

اور بخشش مانگ واسطے گناہ اپنے کے

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

جلد چلو طرف بخشش پروردگار اپنے کے اور بہشت کے چوڑاؤ اسکا

كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۝

مانند چوڑاؤ آسمان کے اور زمین کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

ای لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو طرف اللہ کے توبہ خالص

۲۹ تبارک اللہ	۲	مزمحل	وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
			اور بخشش مانگو اللہ سے بخشنے والا مہربان ہے
۳۰ عَمَّ	۱	النصر	وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
			اور بخشش مانگو اس سے بخشنے والی ہے پیرا توبہ والا
احکام زکوٰۃ			
سیارہ	سورت	رکوع	آیات
۱۰	البقرہ	۵	وَأَتُوا الزَّكَاةَ
			اور دو زکوٰۃ
۱۰	=	=	وَأَتُوا الزَّكَاةَ
			اور دو زکوٰۃ
۱۳	=	=	وَأَتُوا الزَّكَاةَ
			اور دو زکوٰۃ
۱۱	والمحصنات النساء		وَأَتُوا الزَّكَاةَ
			اور دو زکوٰۃ
۱۰	واعلموا التوبة	۸	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
			سلاہ کے ہمین خیرات واسطے فقروں اور محتاجوں کے اور عمل کرنے والوں کے
			عَلَيْهَا وَالْمَوْءَلِفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
			اور تحصیل اسکے کے اور جبکہ کہ لغت دلائی جاتی ہیں بل ان کے اور بیہ تم آزاد کرنے کے گردنوں کے
			وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
			اور بیچ راہ خدا کے اور مسافروں کو فرمیں ہے اللہ کی طرف سے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

خُدْمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

لے مال انکے سے خیرات کہ پاکیزہ کرے تو انکو

بِمَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِذْ صَلَّوْتَ سَكَنَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ

ساتھ اس کے یعنی باطن میں اور دعای خیر بھی اور یاد انکے بھیتق دعا تیری تسکین ہے واسطی انکے اور

سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ أَلْوَعْلُو أَنْ اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

سنے والا جاننے والا ہے کیا نہیں جانا انہوں نے یہ کہ اللہ ہی ہے کہ قبول کرتا ہے توبہ

عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ

بندوں اپنے سے اور لیتا ہے خیراتیں اور یہ کہ اللہ وہی ہے

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

پہر آنے والا مہربان

وَالْوَالِئُ الزُّكُوتِ ۝

اور دو زکوٰۃ

وَالْوَالِئُ الزُّكُوتِ ۝

اور دو زکوٰۃ

وَالْوَالِئُ الزُّكُوتِ ۝

اور دو زکوٰۃ

وَمَا تُسَيِّمُ مِنْ زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ

اور جو کچھ دیتے ہو تم زکوٰۃ سے کہ ارادہ کرتے ہو تم رضامندی اللہ کی کا پس یہ لوگ

يعتذرون

التوبة

۱۳

اقرب

الحج

۶

بقرہ

النور

۷

سورۃ

الروم

۳

			هُمُ الْمَضْعُفُونَ ○
			وہی جن کو گنا کرنے والا
۲۲	مہینت	۲	وَإِنَّ لِلرُّكُوتِ
			اور دیا کرو زکوٰۃ
۲۳	من اعظم	۱	وَوَيْلٌ لِلشُّرَكِيَّةِ الَّذِينَ لَا يَتُوبُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
			اور وہ ہے واسطے شریک کرنے والوں کے وہ لوگ جنہیں دیتے زکوٰۃ اور وہ
			بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○
			ساتھ آخرت کے وہی جن کافر
۲۸	قد سمع الله	۲	وَأَتَى الزَّكَاةَ
			اور دو زکوٰۃ
۲۹	تبارك الله	۲	وَأَتُوا الزَّكَاةَ
			اور دو زکوٰۃ
۳۰	عم	۱	وَأَتُوا الزَّكَاةَ
			اور دو زکوٰۃ
احکام احسان و اخلاق و معفو و صدقہ و حقوق			
سیارہ	سورت	رکوع	وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
			اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا اور قرابت والے سے اور یتیموں
			وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا
			اور فقروں سے اور کہو واسطے لوگوں کے بہلائی

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ	۲۲	البقر	سَيَقُولُ
اور دیا مال اور محبت اسکی کے قرابت والوں کو اور یتیموں کو اور			
الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ			
فقیروں اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور بیچ چھاننے کرنے کے			
وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى	۲۳		
اور خرچ کرو بیچ راہ اللہ کے اور مت ڈالو ہاتھوں اپنے کو طرف			
التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ			
ہلاکت کے اور نیکی کرو تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو			
قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ	۲۶		
کہ جو کچھ خرچ کرو تم مال سے پس واسطے ماں باپ کے اور قرابت والوں کی			
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ			
اور یتیموں کے اور فقیروں کے اور مسافروں کے اور جو کچھ کرو گے تم			
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ			
بھلائی سے پس تحقیق اللہ ساتھ اس کے جاننے والا ہے			
وَكَيْسَلُوكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ	۲۷		
اور سوال کرتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کریں کہہ معافی			
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا	۳۲		
کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا			
فِيضِعْفَ الْمَظْنُونِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً			
پس دوگنا کرے اسکو واسطے اس کے دوگنا بہت			

<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ</p>	۳۳۷	تلك السبل =
<p>اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اور پھر سے کہو یہاں سے تمکو پہلے اس سے</p>		
<p>أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمَ لَا بَعْرُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ</p>	۳۳۸	تلك السبل البقر
<p>کہ آوے وہ دن کہ نہیں خرید و فروخت بیچ اسکے اور نہیں دوستی اور نہ سفارش</p>		
<p>مِثْلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ</p>	۳۳۹	
<p>مثل ان لوگوں کی کہ خرچ کرتے ہیں مال اپنے سے بیچ راہ اللہ کے</p>		
<p>كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَبْتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ</p>		
<p>جیسے مثال ایک دانہ کی کہ آگاوے سات بالین بیچ ہر</p>		
<p>سِنَةٍ مِثْلَ حَبَّةٍ ط وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ</p>		
<p>بال کے شودانہ اور اللہ دونا کرتا ہے واسطے جسکے چاہے</p>		
<p>وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ</p>		
<p>اور اللہ کثیفش والا جاننے والا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے</p>		
<p>فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ أَوْ</p>		
<p>بیچ راہ اللہ کے پھر نہیں لاتے بیچے اور پھر کے کہ خرچ کرتے ہیں حسان کرنا اور</p>		
<p>أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ</p>		
<p>ایذا واسطے انکے کاب انکا ہے نزدیک پروردگار انکے کے اور نہیں خوف</p>		
<p>عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْزَبُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ</p>		
<p>اور پر انکے اور نہ وہ عظیم ہونگے ات ابھی</p>		
<p>وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى</p>		
<p>اور بخش دینا بہتر ہے اوس خیرات سے کہ بیچے اسکے ہو ایذا</p>		

وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ۝

اور اللہ مجھ سے بردبار ہے محل دالا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبْتِ مَا كَسَبْتُمْ

۳۷

تِلْكَ السُّرَّةُ ۝

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَرَأَيْتُمْ

الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تَفْقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيَارٍ

إِلَّا التَّفْضِيلُ ۝

لَنْ تَنَالُوا الْعَمَلَانَ ۝

تَتَفَقَّحُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ الْكَافِرِينَ

الغِيظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ حَبِيبٌ

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسَّةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

۱۰

لَنْ تَنَالُوا الْعَمَلَانَ ۝

۱۲

۝ ۝

۱

لَنْ تَنَالُوا الْعَمَلَانَ ۝

المسكين قاز قوه مینه و قولوا لهم

غیر پس کچھ دو ان لوگوں کو پھینک اور کہو انکو

قولا معروفا ○

ابت ایچی

و بالوالدین احسانا و بوالقربی والیتمی

اور ساتھ مان باپ کے احسان کرنا اور ساتھ قرابت والوں کے اور یتیموں کے

والمسكين و الجار ذی القربی و الجار جنب

اور فقروں کے اور ہمسایہ قرابت والے کے اور ہمسایہ اجنبی کے

و الصالح بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت

اور صحبت رکھنے والے کے کروٹ پر اور مسافر کی اور جگہ مالک ہوئے میں

ایمانکم ان الله لا یحب من کان متخافا لا فخر راہ

دائے ہاتھ ہمارے تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا اس شخص کو کہ ہے تکبر کرنا اور شیخی کرنا

لا خیر فی کثیر من بجوم الامن امر صدق

نہیں ہے بہانی بیج بہت مصلحتوں انکے کے مگر وہ شخص کہ حکم کرے ساتھ جرات کے

او معروفا و اولادہ بین الناس و من

یاساۃ ایچی مان کے یا صلح کر دینے کے درمیان لوگوں کے اور جو کوئی

یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف

کرے یہ واسطے ڈھونڈنے رضامندی اللہ کے پس اللہ

یؤتیہ اجر عظیم ○

بیکے ہم اسکو لو اب بڑا

۲۱	۴	لا یجبهہ	اِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا اَوْ حَسُوهُ اَوْ لَعَفُوا عَنْ سُوءٍ
اگر ظاہر کر دو تم بہلانی کو یا چپاؤ اُسکو یاد رکھو اور برائی سے			
			فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۝
پس تھمتی اللہ سے بخشنے والا قدرت والا			
۱۹	انعام	ولو اننا	وَيَا لَوْلَدَيْنِ احْسَانًا ۝
اور ساتھ مان باپ کے احسان کرنا			
۲۷	اعراف	قال اللہ	خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۝
یکرا در گذر کو اور حکم کر ساتھ بہتری کے اور موہ نہ بہرے جاہلون سے			
۱۰	التوبة	واعلموا	الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوْعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ
وہ لوگ کہ عیب پکڑتے ہیں رعیت کر نواہون کو مسلمانوں میں سے بیج خیراتوں کے			
			وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ
اور ان لوگوں کو کہ ہمیں پاتے مگر محنت اپنی پس ہٹا کرتے ہیں			
			مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
اُنہی ہٹا کرتا ہے اللہ اُنہی اور واسطے اُنکے عذاب درد دینے والا			
۳	سعد	وآبوی	وَالْفِقْوَامِ سَارِقِيْنَ سَرَّاءٍ وَعَالِيَةِ وَاِيْدُرُوْنَ
اور خرچ کرتے ہیں اویجز سے کہ دی ہے سنے اوکو پوشیدہ اور ظاہر اور دفر کرتے ہیں			
			بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقُوْبُ الدَّارِ
ساتہ نیکی کے برائی کو یہ لوگ واسطے اُنہیں کے ہے چھاڑی گھر			
			ثَا فَيَعْمُرُ عُقُوْبُ الدَّارِ كَيْهٖمُ وَاِنْ يَحْمِدِ
پس اچھا ہے گھر چھاڑی کا			

حکم اعراض از جاہلون

۶	ربما	۶	فَاَصْفِي الصَّفِيَّ الْجَمِيلَ ۝
			بس درگذر کر درگذر کر نائیک
۶	ربما	۶	وَ اُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
			اوریجے کر بازو اپنے واسطے ایمان والوں کے
۱۳	ربما	۱۳	اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَّقِ
			تحقیق اللہ حکم کرتا ہے سادہ عدل کے اور احسان کے اور دینے
			ذِ الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَابْغِ
			قربیت والوں کے اور منع کرتا ہے بیجا نی سے اور نامعقول اور سرکشی سے
			يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝
			نصیحت کرتا ہے تمکو کہ تم نصیحت پکڑو
۳	ربما	۳	وَقَضٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ
			اور حکم کیا پروردگار تیرے لئے یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اوسى کو یعنی اللہ کو اور ساتھ ساتھ ماں باپ
			اِحْسَانًا اَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدٌ هُمَا
			احسان کرنا اگر پہنچیں نزدیک تیرے بڑھاپے کو ایک اُن دونوں میں سے
			اَوْ كِلَيْهِمَا فَاَنْتَ عَلَيْهِمَا اَوْفٍ وَّلَا تَهْرُسُهُمَا
			یا دونوں میں سے مت کہہ انکو اوف اور مت ڈانٹ انکو دونوں کو
			وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَاُخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
			اور کہہ واسطے اُن دونوں کے بات تعظیم کی اور عبادت واسطے اُن دونوں کو بلکہ
			الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
			ذلت سے انکو کہہ سے بہرہگار میرے رحم کر اُن دونوں کو جیسا کہ

رَبِّي صَغِيرًا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِأَنِّي تَقُوسِكُمْ أَنْ

بالا ان دونوں نے مجھ کو چھوڑا رب تمہارا خوب جانتا ہے اچیز کو کہ بیچ جیون بہتار کے ہمار

تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

ہو گئے صالح پس تحقیق وہ ہے واسطے رجوع کرنے والوں کے طرف سے بخشنے والا

وَإِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

اور ذی قرابت والیکو حق ایسا اور مسکین اور مسافر کو

وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا

اورست بجا خرچ کر بجا خرچ کرنا تحقیق بجا خرچ کرنے والے سینے

إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

بہالی شیطانوں کے اور ہے شیطان واسطے پروردگار اپنے کے نفرتیوں

قُلْ هُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

سجین ۱۵
تجلی اشیل ۳

پس کہہ واسطے انکے بات آسانی کی

قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

کہہ واسطے بندوں میرے کے کہ کہیں وہ بات کہ وہ بہت اچھی ہے

أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَاتِ

اور دور کر ساتھ اچیز کے کہ وہ بہت اچھی ہے برائی کو

وَلَا يَأْتِلُ وَلَا الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُوا

اور نہ مسم کہا دین صاحب بزرگی کے تم میں سے اور کشائش کے یہ کہ دیوین

أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

صاحب قرابت کو اور فقروں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو بیچ راہ اللہ کے

۶
المونون ۶
النور ۳

وَلِيَعْفُوا وَيَصِفُوا أَلَّا يَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

اور جاسے کہ معاف کریں اور مدد کریں کیا نہیں دوستی کہتے ہیں یہ کہ بخشد ہوے اور

لَكُمْ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

اور بندے رحمن کے وہ ہیں کہ چلتے ہیں اور زمین کے آہستہ

وَلَا ذَاخًا لَهُمْ لِيَجْهَلُونَ قَالُوا سَلَامًا

اور جو وقت کہ بات کرتے ہیں اُنہیں جاہل کہتے ہیں کہ سلام ہے

وَأَبْتَعِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ

اور طلب کر یہ جو اس چیز کے کہ دیا ہے تجھ کو اللہ نے گہرا آخرت کا اور مت بھول

نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَحَسِبْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

حقہ اپنا دنیا سے اور احسان کر طرف غلظ کے جیسا کہ احسان کیا ہے

إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ

نے طرف تیرے اور مت بگاڑنا فساد پر زمین کے تحقیق اللہ

لَا يَحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

نہیں دوست رکھتا ہے فساد کو نواہون کو

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَبًا وَ

اور حکم کیا ہے انسان کو ساتھ ماں باپ کے بہلائی کرنا اور

إِحْسَانًا لِيُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْ

اگر جھگڑا کریں مجھے دونوں یہ کہ شریک لائے تو ساتھ میرے اس چیز کو کہ نہیں واسطی تیرے ساتھ

وقال الذي الفقان 4

خلق الفصم 8

من خلق العنكبوت 1

اور علم کیا ہے انسان کو ساتھ ماں باپ کے بہلائی کرنا اور

	<p>إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ طرف سے ہے پیرا انا تھا را پس خبر دنگا میں تمکو ساتھ پھرنے کے کہ تم کرتے</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ پس دے قرابت والیکو حق اسکا اور فقیر کو اور مسافر کو</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ یہ بہت بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے کہ لہادہ کرتے ہیں رضامندی خدا کی اور یہ لوگ</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ اور حکم کیا مجھے انسان کو بیچ مان باپ اُم کے کے اُتھانی ہے اسکو مان اُسکی سستی سے</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلَةٍ فِي عَمَلٍ غَيْرِ غَدَابَةٍ</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ اور سستی کے اور دودھ چھانا اسکا بیچ دوزیکے یہ کہ شکر کرنا اور سستی سے</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ إِلَى الْمَصِيرِ ۚ وَأَجَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تَشْرِكَ بِي</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ طرف سے ہے پیرانا اور اگر شدت کریں تجھے اور ایک کو شریک لاساتہ میرے</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ اُس چیز کو کہ نہیں واسطے تیرے ساتھ کے کچھ علم میں مت کہا مان مان دوزنگا اور صحبت رکھ ان دونوں</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ اچھی طرح اور پیروی کر راہ اوس شخص کی کہ رجوع کرے طرف میرے</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي</p>
<p>۲۱ الذمات</p>	<p>۴ اور نہیں برابر ہوتی نیکی اور نہ برائی دفع کر مری کر ساتھ اُس حملہ کے</p>

هِيَ أَحْسَنُ فَاذِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

کود بہت اچھی ہے پس ناگہان وہ شخص درمیان تیرے اور درمیان انکے دشمنی ہے

كَانَتْ وَلِيًّا حَيْمَهُمْ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

گویا کہ وہ دوست ہے قرابتی اور بہنیں کھائی جاتی یہ بات مگر جو لوگ کہ صبر کرتے ہیں

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

اور بہنیں کھلا جاتا یہ مگر بڑے نصیب والا

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ

اور بدلہ برائی کا برائی ہے مانند اسکے پس جس شخص نے معاف کیا اور صلح کی

فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

پس وہاں اسکا اور اللہ کے ہے تحقیق وہ بہنیں دوست رکھتا ظالموں کو اور کہتے جس نے بلایا

بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا

پس جو مظلوم ہونے اپنے کے پس یہ لوگ بہنیں اور پر انکے کچھ راہ ملامت کی سوائے انکے بہنیں

السَّبِيلُ وَالَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ

کراہ اور ان لوگوں کے ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے ہیں

فِي الْأَرْضِ بغيرِ الْحَقِّ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

یہ زمین کے ناحق یہ لوگ واسطے انکے عذاب ہے درد دینے والا

وَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

اور اللہ جتنے صبر کیا اور بخشد یا تحقیق یہ بہت کے کاموں سے ہے

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُوا أَمَّا اللَّهُ

کہہ واسطے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے بخشد میں واسطے ان لوگوں کے کہ بہنیں اور صبر کرتے ہیں

البیورد التعداد ۲

البیورد الجائزۃ ۲

لِحِرِّي قَوْمًا مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

تو کہ جناد سے قوم کو سادہ اسپوز کے کہتے تھے

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ

اور حکم کیا مجھے آدمی کو ساتھ ان باپ اپنے کے احسان کرنا اٹھاتی ہے اُسکو

أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط تَاخِيراً تَيْبَةً

ان اُسکی تکلیف سے اور غیبی ہے اُسکو تکلیف سے

هَانَتْهُ هَوْلًا وَعَلَّعَتْهُ حَوَالًا لِّيَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

خبردار ہو تم وہ لوگ کہ پکار سے جاتے ہو کہ خرچ کرو بیچ راہ اللہ کے

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

اپنی بلا احسان کا مگر احسان

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَكْفِينَ فِيهِ ط

اور خرچ کرو اسپوز سے کہ کیا ہے تمکو جائزین پہلو زکا بیچ اُسکے

وَمَا لَكُمْ أَنْ تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور کیسے واسطے تمہارے یہ کہ نہ خرچ کرو بیچ راہ خدا کے

مَنْ ذَلَّلْتُمْ يَقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ

کون شخص ہے جو قرض دیوے اللہ کو قرض اچھا پس دوگنا کرے اُسکو

لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

واسطے اُسکے اور واسطے اُسکے ہے ثواب باکرم

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ

اور خرچ کرو اسپوز سے کہ دی مجھے تمکو پہلے اس سے کہ آوے کسیکو تم میں سے

۲۶
حکم
انفاق

محمد

۲۷
خطبہ
قالہ الرحمن

الحدی

۲۸
قالہ اللہ المناقب

الموت فيقول رب لولا حرقني الى اجل مرتب

موت پس کہے میرے رب کیون نہ تو پہل دی تو نہ ہو جگر ایک وقت نزدیک تک

وَأَصْدَقِي وَأَكُنُّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

پس خیرات دیتا میں اور ہوتا میں صالحوں سے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ

اسے لوگو جو ایمان لائے ہو جیتن بعضی بی بیان تمہاری اور اولاد تمہاری

عَدُوِّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا تَصِفُّوْا

دشمن میں واسطے تمہارے پس بچو ان سے اور اگر معاف کرو اور درگزر دو

وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ

اور بخشدہ انکو پس جیتن اللہ بخشتے والا مہربان ہے سو اس کے نہیں کمال تمہار

وَأَوْلَادُكُمْ فِرْقَانَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

اور اولاد تمہاری آزمائش ہے اور اللہ نزدیک اس کے ہے ثواب بڑا

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا

پس ڈرو اللہ سے جتنا در سکو تم اور سنو اور فرمانبرداری کرو

وَاتَّقُوا خَيْرَ لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوَقِّعْ لِنَفْسِهِ

اور خیر کرو بہتر ہوگا واسطے جانوں تمہاری کے اور جو کوئی بجا یا جاوے علی جان اپنی کی

قَوْلِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ۝ إِن تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا

پس یہ لوگ وہی ہیں غلام بننے واسطے اور اگر قرض دو اللہ کو

حَسَنًا يُضْعِفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اچھا ہوگنا کر بجا اسکو واسطے تمہار اور بخشتا ہے تمہار اور اللہ قدر دان ہے عمل بالہ

۲۸
تلاوح اللہ
التغابن

وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صِلًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ

پس چھوڑ دے انکو صاف نہیں قدرت ہوتے اور کسی چیز کے

مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

انہیں ہدایت سے کہ کیا انہوں نے اور اللہ نہیں اڑکھاتا قوم کافروں کو

أَيُّدٍ أَحَدُكُمْ إِنْ تَكُونُ لَهُ جَنَّتٌ مِنْ تَحِيلٍ

کیا چاہتا ہے کہ اپنی تم سے یہ کہ ہر پاسے اسکے ہاں بھجروں سے اور

وَأَعْيَابٍ جَسْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا

اور انکو روں سے چلتی ہیں نیچے اسکے سے ہرین واسطے اسکے ہاں اسکے

مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ

سب بیویوں سے اور بیٹے اسکے بڑا ہوا اور واسطے اسکے اولاد کے

ضِعْفَاءُ وَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهَا فَاخْرَجَتْ

ناتوان ہیں پہنچا انکو بولا جہ اسکے اک ہے پس جلیا

وَالَّذِينَ يَبْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَالَّذِينَ

اور جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں مال اپنے دکھانے کو لوگوں کے

دیکھو قرآن کریم


وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْلًا

اور دست ہو بانڈ ان لوگوں کے کہ نکلے انہوں اپنے سے اتر کر

وَرِئَاءَ النَّاسِ الْآيَةَ دِيَارِهِمْ بَطْلًا

اور دکھانے لوگوں کے

سورۃ البقرہ



والصفت النساء

والاعمال انفال

۱	مَاعُون	الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ۝
		وہ جو کہلاتے ہیں لوگوں کو

منع اہرف و فضول خرچی

سیارہ	سورت	رکوع	آیات
۸	اعراف	۳	وَلَا تُسْرِفُوا اور مت اڑاؤ
۱۵	نبی اسرائیل	۳	وَلَا تَبْذُرُوا الرِّبَّاءَ الَّتِي كَانُوا يُحِبُّونَ الشَّيْطَانَ اور مت بجا خرچ کر بجا خرچ کرنا تحقیق بجا خرچ کرنے والے شیخے یہاں شیطان کے

احکام صیام رمضان و اعکاف

سیارہ	سورت	رکوع	آیات
۲	البقر	۲۳	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ ای لوگو جو ایمان لائے لکھا گیا اور تمہارے روزہ جیسا کہ لکھا گیا تھا
			عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيُّهَا الْمَعْدُودُونَ اور ان لوگوں کے جو پہلے تھے تو کہ تم پر ہیزگاری کو روزہ دن گنتی کے
			فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ رِجْلاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا اور سفر کے پس گنتی ہے اور دنوں
			أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مِسْكِينٍ اور اور ان لوگوں کے کہ طاقت رکھتے ہیں اور کسی روزہ نہیں رکھتے دلا ہی کہا گیا
			فَمَنْ نَظَوْا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا پس جو کوئی کرے زیادہ نیکی پس وہ بہتر ہے واسطے اسکے اور یہ کہ روزہ رکھو تم

خَيْرَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

بہتر ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم جانتے

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

مہینہ رمضان کا وہ عہد اگر آیا ہے بیچ اسکے قرآن مجید

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

ہدایت واسطے لوگوں کے اور دلیلین روشن ہدایت سے اور مجرہ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ

پس جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے کو پس چاہئے کہ روزہ رکھے اسکو اور جو کوئی ہو

مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرٍ يُرِيدُ اللّٰهُ

بیمار یا اور سفر کے پس گنتی ہے اور دنوں سے ارادہ کرتا ہے اللہ

بِكُمُ الْيُسْرَىٰ ۗ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

ساتھ تمہارے آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا ساتھ تمہارے دشواری کا اور تو کہ پورا کرو گنتی کو

وَلِتُكْتَبُ لَكُمْ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ

اور تو کہ بڑائی کرو اللہ کی اور اسکے کہ ہدایت کیا تمکو اور تو کہ تم شکر کرو

اِحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّفْتِ اِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ

حلال کی گئی واسطے تمہارے رات روزے کی رغبت کرنا ساتھ بیویوں اپنے کے دی

لِبَاسٍ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنْتُمْ كُنْتُمْ

پردے میں واسطے تمہارے اور تم پردہ ہو واسطے انکے جانا اللہ نے یہ کہ تم تھے

مُجْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ

جانت کرتے جانوں اپنی کی پس پھرایا اور تمہارے اور حاف کیا تم سے پس اب

۲۳۳

البقرہ

سُورَةُ

بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

ٹاکر کرنے اور ڈھونڈ ہونے کا ہے اللہ نے واسطے تمہارے اور کھا دینا

حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

یہاں تک کہ ظاہر ہو جاوے واسطے تمہارے آگے سفید تارے کالے سے

مِنَ الْفَجْرِ صَلُّوا الصُّبْحَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ

فجر سے پہر پورا کرو روزہ کو رات تک اور مت لگو ان سے

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

اور تم احکام کرنے واسطے ہو بیچ مسجد کے

احکام حج و عمرہ وغیرہ متعلقہ کعبہ مطہرہ
چشمہ زفرم و حال حضرت ابراہیم و اسل
واسلحق علیہم السلام

آیات

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

اور جسوقت آزمایا ابراہیم کو رب اسکے نے ساتھ کئی باتوں کے پس پورا کیا انکو

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

کہا تحقیق میں کرنے والا ہوں تجھکو واسطے لوگوں کے امام کہا اور اولاد میری سے

قَالَ لَا يَنْبَغُ مُحَمَّدٍ مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ

کہا نہیں چھوگا عہد میرا ظالموں کو اور جب کیا رہنے کعبہ کو

مَثَابَةً لِّلنَّاسِ أَمْنًا وَآخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

جائے لوگ واسطے لوگوں کے اور امن والا اور پکڑو علم جاسے قدم ابراہیم کو

سیارہ سورت رکوع

۱۵ البقرہ

۱۶

۱۷

۱۸

مَصَلَّةً وَنَحْمَدُكَ يَا إِلَهَ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ اَنْ طَهَّرَكَ

جائے نماز اور عہد کیا ہے طرف ابراہیم کے اور اسماعیل کے یہ کہ پاک کر

بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

گھر میرے کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعکاف کرنے والوں کے اور رکوع سجد کرنے والوں کے

تاقیم رکوع نمبر ۱۸ - دیکھو قرآن مجید

اِنَّ الصَّافِيَا وَالْمُرُوَّةَ مِنْ شَعَابِ اِبْرَاهِيْمَ فَسَجِّرَ الْبَيْتَ

تختین صفا اور مروہ نشانیاں اللہ کی سے ہے پس جو کوئی حج کرے گھر کا

اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطُوفَ بِهِنَّ وَمَنْ

یا عمرہ کرے پس نہیں گناہ اوپر اسکے یہ کہ طواف کرے بیچ ان دونوں کے اور جو کوئی

تَطُوعًا خَيْرٌ اَقْرَبَ اِلَى اللّٰهِ شَاكِرًا عَلِيْمًا

خوشی سے پہلانی کرے پس تختی اللہ قدر دان سے جاننے والا

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

سوال کرتے ہیں تجھ کو چاندون سے کہہ کہ وہ وقت ہیں واسطے لوگوں کے

وَالْحُجَّةِ عِنْدَنَا تَفْلِحُونَ دیکھو قرآن کریم

اور واسطے حج کے

وَاَنْتُمْ اَكْبَرُ وَالْعَمْرَةَ لِلّٰهِ اِنْ اَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ

اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو واسطے اللہ پس اگر بند کیے جاؤ تم پس جو کچھ میسر ہو

مِنَ الْهُدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَقًّا يَبْلُغُ

قربانی سے اور مت نہ ڈاؤ سروں اپنوں کو بھانٹک کہ پہنچے

سَيَقُولُ الْيَقْر ۱۹

۲۲ = =

= = =

الْهَدَىٰ سِحْلَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ آذٌ

قربانی کی جگہ طلال ہونے اپنے کی پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا اوسکو ایذا ہو

مِّن رَّأْسِهِ فِقْدَانُهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

اسرائیکے سے پس بدلا ہے روزوں سے یا خیرات سے

نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمِنَ مَّنْعَرٍ أَلْعَمْرَةَ إِلَىٰ أَنْ تُسَـ

ذبح سے پس جب تم امن میں ہو پس جو کوئی قائمہ آٹھادسے عمرے سے ساتھ جو کے

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَىٰ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

پس جو کچھ میسر ہو قربانی سے پس جو کوئی بناوے پس روزے

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتَ بِرِجْلِكَ

تین دن کے بیچ حج کے اور سات روزے جب پہر دم یہ

عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاصِرًا

دس ہوسے پورے یہ دسے اس شخص کے ہے کہ ہون اہل او کے رہنے والی

لِلسَّجْدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمَ اللَّهُ شَدِيدَ الْعِقَابِ

سجد حرام کے اور ڈرو اللہ سے اور جانو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا

حج کے مہینے میں معلوم پس جو کوئی مقرر کرے حج اسکے حج پس

رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَالُفَعَلُوا

رجعت کرنا اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑنا حج کے اور جو کہے تم

مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودٌ وَإِنِ خَيْرٌ لِّلرَّدِ

بہلائی سے جان لیگا اوسکو اللہ اور خرچہ بہا کرو پس بخیر بہتر فائدہ خرچہ کا

التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

حرم کا بچنا ہے سوال سے اور ڈنڈہ مجھ سے اسے صاحبو عقل کے نہیں اور تمہارے

جَنَاحٍ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ

گناہ پہ کہ ڈھونڈو فضل پروردگار اپنے سے یعنی سوداگری پس جب بیع

مِنْ عَرَافَاتٍ فَإِذْ لَرَوِا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

عرفات سے پس یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے

وَإِذْ لَرَوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ

اور یاد کرو اسکو جیسا ہدایت کیا تمکو اور تحقیق تھے تم پہلے اس سے

الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

گمراہوں سے پھر بیرو جہان سے کہہ رہتے ہیں لوگ

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِذَا قَضَيْتُمْ

اور بخشش مانگو اللہ سے تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے پس جب کر چکو تم

مَنَاسِكَكُمْ فَإِذْ لَرَوِا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ

عبادت میں اپنی پس یاد کرو اللہ کو جیسا یاد کرنا ہے تمہارا باپوں کے

أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۝

یا زیادہ تر یاد کرنا

وَإِذْ لَرَوِا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ

اور یاد کرو اللہ کو بیچ دنوں گنے ہو دن کے پس جو کوئی جلدی کرے

فِي يَوْمَيْنِ فَلَا تُرْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا تُرْ عَلَيْهِ

بیچ دو دن کے پس نہیں گناہ اوپر اسکے اور جو کوئی بھیجے رے پس نہیں گناہ اوپر

سَيَقُولُ الْبَقْر ۲۵

مِنَ انْفِي وَانْقُوا لِلَّهِ وَاَعْلُوا انْكَرًا لِّیَهِ مَحْشُرُونَ

یہ دہلے اُسکے ہے جو برائیوں کو کرتے اور ڈرو اللہ کے اور جانو یہ کہ تم طرف اُسکے اٹھے گے جاؤ گے

الَّذِي قَالَ لِيَا بْرَاهِمَ اِنَّا اَنْتُمْ اِلٰهُكُمْ

کہا نہ دیکھا تو نے طرف اُس شخص کے کہ جبکہ کہا ابراہیم سے حج پر رد و گارا اُسکے کے اسو اسطیکم دی اُدو

اِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي

اللہ نے پاؤں تہا ہی جو وقت کہا ابراہیم سے پر رد و گارا میرا وہ ہے جو جلا تا ہے اور تہا

قَالَ اِبْرَاهِمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

کہا میں جلا تا ہوں اور تہا ہوں کہا ابراہیم نے پس تھیں اللہ تہا ہے سورج کو مشرق سے

فَاْتِيهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَهَتَّ الَّذِي كَفَرُوا وَاللّٰهُ

پس لے آئے مغرب سے پس ہو چکا ہوا وہ جو کافر تہا اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

نہیں راہ دکھاتا قوم ظالموں کو

وَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ

اور جب کہا ابراہیم نے اسی رب میرے دکھا دے جھگو کیونکہ جلا تا ہے مردوں کو کہا

اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَّلٰكِنْ لِّيَبْتَلِيَ قَلْبِيْ قَالَ فَاخْذْ

کہا نہیں ایمان لایا تو کہا بلکہ لایا ہوں میں ولیکن تو کہ آرام کرے دل میرا پس کہا لی

الرَّبْعَةَ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلٰى كُلِّ

چار جانوروں سے پس صورت پہچان رکھہ ادنی طرف اپنے پہر کرے اوپر پہاڑ کے

جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰ اَيْنِكَ سَعِيْطٌ

ادنیوں سے ایک ٹکڑا پہر لہا اونکو چلے آؤنگے تیرے پاس دوڑتے

وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور جان یہ کہ اللہ غالب ہے حکمت والا

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَا تَحَابُّونَ فِي آيَاتِهِمْ وَمَا نَزَلَتْ

اسی اہل کتاب کے کہوں چہکڑتے ہو تم بیچ ابراہیم کے اور نہ اناری گئی

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

توریت اور انجیل مگر پیچے اسکے کیا پس نہیں سمجھتے

تَاوَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيُحْيُوا قُرْآنَ مُحَمَّدٍ

تِلْكَ آيَاتُ الْعَمَلِ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

جنت پہلا گھر مقرر کیا گیا واسطے لوگوں کے دہ بیچ مکہ کے ہے بکت

وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بَرَّاهُمْ

اور ہدایت واسطے عالموں کے بیچ اسکے نشانیاں ہیں ظاہر مقام ابراہیم کا

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُرُّ الْبَيْتِ

اور جو کوئی داخل ہوا میں ہوتا ہے امن میں اور وہ سب اسکے اور لوگوں حج کرنا اس گھر کا

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

جو کہ پاسکے طرف اسکے راہ اور جو کوئی کفر کرے پس جنت اللہ

عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ

بے پرواہ ہے عالموں سے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ

اسی لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو ساتھ عہدوں کے طالع کہے گئے دار و ستار

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَدْعَاةٌ

بِهَيْمَةٍ إِلَّا نَعَامٍ إِلَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ غَيْرِ مُحْكَمٍ إِلَى الصَّيْدِ

پارہے جانے والے مگر جو پڑھی جاتی ہیں اور تمہارا نہ حلال جانے والے شکار کو

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ طَائِفٌ مِنَ اللَّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور تم احرام بانڈ ہے اور بھینٹ اللہ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے اسے لوگو جو

آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ

ایمان لائے ہو مت بھینٹ کرو نشانیاں اللہ کی کو اور نہ مہینہ حرام کو

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ

اور نہ اس جانور کو کہ نیاز کعبہ کی ہو اور نہ جنکے گلے میں پٹا ڈالکر بیجا دین کعبہ کو اور نہ قصد کرنا لوگوں کو

الْحُرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَرِضْوَانًا وَآذَانَ

حرمت والیکو کہ چاہتے ہیں فضل پروردگار اپنے سے اور رضامندی اور حجب

حَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ

طال ہو تم میں شکار کرو اور نہ باعث ہو تمکو دہننے کسی

قَوْمٍ أَنْ صَدُّواكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْجَنَّةِ

وقف کانم

قوم کی اسواسے کہ بند کیا تمکو مسجد حرام سے یہ کہ حدیسی بھلاؤ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ الَّتِي حُرِّمَ

ای لوگو جو ایمان لائے ہو بہت مار ڈالو شکار کو اگر تم احرام میں ہو

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدًّا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

اور جو کوئی مار ڈالے اسکو تم میں سے جانکر پس بلا اسکا ہے اتنا دیکے جو مانا ہے بلکہ

النَّعْيِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِمَّنْكُمْ هُدًى يَبْلُغُ

مار ڈالنے سے حکم کریں ساتھ اسکے دو صاحب عدل تم میں سے قرآنی پہلے والی

واذ ۱۳ ماہ ۱۳

الْكُفْبَةِ أَوْ كَفَّارَةَ طَعَامِ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٍ

کعبہ کے یا کفارہ کہلانا مسکینوں کا برابر

ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبِالْأَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ

اُسکے روزے تو کہہ دے وبال کام لینے کا معاف کیا اللہ نے آپ سے

وَمَنْ عَادَ فَيَنْقُصِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

گزا اور جو کوئی پھر کیا پس بدلا لیوگا اللہ اس سے اور اللہ غالب ہے بدلا لینے والا

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ

حلال کیا گیا واسطے تمہارے شکار کرنا دریا کا اور کہلانا اسکا فائدہ واسطے تمہارے اور

لِلسَّيْرَةِ وَحَرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا

واسطے مسافروں کے اور حرام کیا گیا اور پر تمہارے شکار کرنا جبل کا جب تک کہ رہو تم حرام میں

وَأَقْوَالُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ

اور ڈرو اللہ سے وہ جو طرف اُسکے اکٹھے کے جاوین گئے کیا اللہ نے کعبہ کو

الْبَيْتِ الْكَرِيمِ مَقَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ

اس گہر حرمت والیکو باعث قائم رہنے کا واسطے لوگوں کے اور مہینوں حرمت والون کو اور ہدیہ

وَالْقَلَائِدَ

اور گلے میں پٹا ڈالنے والیان

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَإِنَّا أَصْنَا مَا

اور جب کہا ابراہیم نے واسطے باپ لینے آڑے کیا پڑتا ہے تو جنوں کو

الْهَيْهَاتَ إِلَىٰ آرَائِكَ وَقَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

مخوہ دیکھتا ہوں جہکوں اور قوم تیری کو نیچے گواہی ظاہر کے

وَأَذَانًا مِّنَ الْغَامِ

۹

وَمَا لَهُمْ بِالْأَعْدَاءِ إِلَهُكُمْ اللَّهُ وَمَا يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	۴	انفال	قال اللاد
اور کہا ہے واسطے انکے یہ کہ نہ غلبہ کرے اونکو اور وہ بند کرتے ہیں مسجد حرام سے			
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ	۶	هود	وَمَا جَاءَتْ
اور ہم نے تحقیق آئے بھیجے ہوسے ہمارے ابراہیم کے پاس			
وَأَذَقْنَا إِبْرَاهِيمَ	۶	ابوہم	وَمَا اَبْرَى
اور جب کہا ابراہیم نے			
وَتَلَّوْهُمْ عَنِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ	۴	المجر	رَبَّمَا
اور خبر دے اونکو مہانوں ابراہیم کے سے			
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ	۱۵	النخل	=
تحقیق ابراہیم تھا پیشوا			
يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ			
شُرک لانے والوں سے			
وَأَذْكُرِي الْكِتَابَ إِبْرَاهِيمَ	۳	مريم	قال الاول
اور یاد کر بیچ کتاب کے ابراہیم کو			
وَأَذْكُرِي الْكِتَابَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ	۴	=	=
اور یاد کر بیچ کتاب کے اسمعیل کو تحقیق وہ تھا سچا			
الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ			
دوسے کا اور تھا پیغمبر نبی اور تھا حکم کرتا اہل اپنے کو			
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا			
ساتھ نماز کے اور زکوٰۃ کے اور تھا نزدیک پروردگار اپنے کے پسندیدہ			

اقتران انبیا	۵	وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ تَابِعِينَهُ دَعْوَةَ رَبِّهِ
الحجر	۱۳	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
		وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً
		الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ مِنَ
		بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ
		مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ تَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي
		لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ
		فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكَّلْ عَلَيْنَا لَا يَلِيكَ شَيْءٌ
		يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِشَهِدُوا مِنَّا فَعَلِمُوا
		وَيَذَكِّرْهُم بِأَسْمَاءِ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ قُرْبَىٰ

مِنْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

چار پلوں پالے ہوؤں سے پس کہاؤ اور انہوں سے اور کھلاؤ

الْبَائِسِ الْفَقِيرِ تَلْبِصُوا لِقَوْمِ لِيُوَفُوا

بھوکے گھبرائے ہوئے کو دور کر میں اپنے اور پوری کریں

فَذَوْقُوهُمْ وَأَيُّكُمْ فَأَبِيتُ الْعَتِيقِ ذَلِكَ

ذریعہ اپنی اور گردہریں کر قدیم کے بات ہے

وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ حَيْرَانٌ وَعِنْدَ رَبِّهِ

اور جو کوئی تعظیم کرے حرمتوں اللہ کی کو پس وہ بہتر ہے واسطے اسکی نزدیک ہوگا

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

اور جو کوئی تعظیم کرے نشانیوں خدا کی کو پس وہ بہتر ہے واسطے اسکی دلوں کی سے ہے

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تَمْرًا حَلِیًّا إِلَىٰ

دوسرے تمہارے اسکی فائدے ہیں ایک وقت مقرر تک پھر تکہ طلال ہونے اور چکی طرف

الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا

کعبہ کے ہے اور واسطے ہر امت کے مقرر کی ہے جسے طرح عبادت کی

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ هَيْمَةِ الْأَنْعَامِ

تو کہ یاد کریں نام اللہ کا اور پڑھیں اس کے کہ دی ہے جسے انکو چار پلوں پالی ہوؤں سے

وَالْبُدَانَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

اور اونیشہ باندوں کے کیا ہے جسے انکو واسطے تمہارے نشانیوں اللہ کے واسطے تمہاری

فَإِذْ كُرِئَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَأِذَا وُجِبَتْ

خوانی ہے میں یاد کرو نام اللہ کا اور عبادت کے نظار انہیں ہوسے پس ہر وقت کریں

اقتباس الحج

الحج

جُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا أَقْبَانَهُ وَالْمَعْرُوفَ ذَلِكَ

گردین اور نئی پس کہاؤ اورین سے اوہ کہلاؤ ہے سوال بغیر کو اور سوال کرنا لیکو اسپط

سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعْنَةً لَشُكْرُونَ لَنْ يَبَالَ اللَّهُ

سخر کیا ہے انکو واسطے تمہارے تو کہ تم شکر کرو ہرگز نہ پہنچے گا اللہ کو

حَوْمَهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَبَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

گوشت انکا اور نہ خون انکا دیکھیں پہنچے گی انکو بہتر گاری تمہاری

كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

اسطرح سخر کیا انکو واسطے تمہارے تو کہ تم بڑائی کہو اللہ کی اور لے کے کہ ہدایت کیا انکو

وَكَبِيرًا لِّحُسَيْنٍ ۝

اور بشارت دی نیکی والوں کو

وَآتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝

پورا رکوع دیکھو قرآن شریف

وقال الذی الشعر ۱۹

اور بڑا اور پر لکھے قصہ ابراہیم کا

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّ

۲۰ من خلق العنقب

اور کہا ابراہیم نے سوا اللہ کے نہیں کہ پکڑا ہے تم نے سوائے خدا کے بتوں کو دوستی ہے

بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُ

در میان اپنے بیچ زندگانی دنیا کے پھر دن قیامت کے کافر ہو جائیں گے بعض تم

بَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكُمْ

بعضوں سے اور لعنت کریں گے بعض تمہارے بعض کو اور جگہ رہنے اذیکلی آگ ہے

وَمَا لَكُمْ مِّن تَصْرِيحٍ قَامِنَ لَهُ لَوْ طُورُ قَالِ

اور نہیں واسطے تمہارے کوئی مددگار پس ایمان لایا واسطے اسکے لوط اور کہا ابراہیم نے

فَهَا جَرُّ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا

وطن جوڑنے والا ہون طرف دینے کے محقق وہ ہے غالب حکمت والا اور دیا ہننے

لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الْبُرُوءَةَ

اسکو اسحاق اور یعقوب اور کی ہننے بیچ اولاد اوسکے کے پیغمبری

وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ لَآخِرُ

اور کتاب اور دیا ہننے اوسکو نواب اسکا بیچ دنیا کے اور محقق وہ بیچ آخرت کے

مِنَ الصَّالِحِينَ ○

البتہ صالحوں سے ہے

أُولَئِكَ يَرَوْنَا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيُخْطَفُ النَّاسُ

کیا ہنیں دیکھا انہوں نے یہ کہ کیا ہننے حرم کو امن والا اور اچھے جاتے ہن لوگ

مِنْ حَوْلِهِمْ أَقْيَامُ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِغِيَةِ اللَّهِ

گرد اوسکے سے کیا پس ساتھ جہوت کے ایمان لاتے ہن اور ساتھ نعمت اللہ کے

يَكْفُرُونَ ○

کفر کرتے ہن

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ

اور محقق تابون اوسکے سے البتہ ابراہیم تھا جہوت کو آیا رب اپنے کے پاس

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○

ساتھ دل سلامت کے

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ

اور کہا ابراہیم نے محقق ہن جانے والا ہون طرف پروردگار اپنے کے البتہ راہ دکھا دیکھا ہن اسی

هَبِّ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

جنت مجھ کو اولاد صالحوں میں سے پس بشارت دی جسے اسکو ساتھ ایک لڑکے کے عمل سے

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَدِي وَأَيْمَانِي وَإِنِّي لَأَتَمُّ

پس جبوقت پہنچا ساتھ اسکے درڑنے کو کہا اے چوڑے بیٹے میرے تحقیق میں دیکھتا ہوں جو خود

أَنِّي أَذْبُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا آتِ بِفُلٍ

تحقیق میں ذبح کرتا ہوں مجھ کو پس دیکھ کہ کیا دیکھتا ہے تو کہا ای باب میرے

مَالٍ مَّوَدَّعٍ وَسَبَّحْتَ لِي إِنَّ تَنَاءَ اللَّهِ مِنَ الصَّابِرِينَ

جو کچھ حکم کیا جاتا ہے تو ستاب باور لگا تو چھو اگر یا ہے اللہ نے صبر کرنے والوں سے

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ

پس جب مطیع ہو دو لون حکم الہی کے اور چھڑا اوکو لٹھے پر اور پکارا جسے اوکو ای ابراہیم

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

تحقیق سچ کیا تو نے خواب کو تحقیق ہم اس عظیم جزا دیتے ہیں آسان کرنے والوں

إِنَّ هَذَا لَهُوَ أَلْبَسُ الْمُبِينِ وَقَدَيْنَاهُ بِذَنبِ

تحقیق یہ بات وہی ہے آزمائش ظاہر اور چھڑا لیا جسے اسکو بدلے قربانی

عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

بڑی کے اور چھڑا جسے اوپر او اسکے بیچ چھیلوں کے سلامتی ہو جو اوپر ابراہیم کے

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْتَمِرِينَ

اس عظیم جزا دیتے ہیں ہم آسان کرنے والوں کو تحقیق وہ بندوں بہر ایمان والوں سے تھا

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ

اور بشارت دی جسے اسکو ساتھ اسحاق کے جو نبی تھا صالحوں سے اور برکت دی جسے اوپر اسکے

وَعَلَىٰ اسْحَقَ كَوْمٍ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ

اور اوپر اسحق کے اور اولاد ان دونوں کے سے احسان کرنے والے ہی ہیں اور ظالم اور ظالم

لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝

اپنی جانوں پر ظالم

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ تَالِعَهُ دِكْهُو قرآن مجید

اور وہی ہے جس نے ہڈی کیے ہاتھ اوندکے

احکام صبر و شکر و تقویٰ و توکل و رضا

آیت

وَأَشْكُرُ وِلِيٍّ وَلَا تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور شکر کرو واسطے میرے اور نہ کفر کرو مجھے ای لوگو جو ایمان لائے

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

ہو رہے ساتھ صبر کے اور نماز کے تحقیق اللہ ہے ساتھ

الصَّابِرِينَ ۝

صبر کرنے والوں کے

وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ لَبِئْسَ عَمَلٌ خَوْفٌ وَاجْتِهَادٌ وَنَجْرٌ

اور اسبتہ ازماوینگے ہم تم کو ساتھ ایک چیز کے ڈر سے اور ہر کوشش سے اور کئی

مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَائِطِ وَلَيَبْلُوَنَّهُمْ

الون سے اور جانوں کی سے اور ٹہیلوں کی سے اور شہادت کے

الضَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مِّصِيبَةٌ قَالُوا

کہہ نہ کہ وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انکو مصیبت کہتے ہیں

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

تعمین ہم واسطے اللہ کے ہیں اور ہم طرف اوس کے پھر جانے والے ہیں

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّكَ وَرَحْمَةٌ

بر لوگ اوپر اونس کے سے دود پروردگار اونس کے سے اور رحمت

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

اور یہ لوگ وہی ہیں راہ پانے والے

وَأَشْكُرُ لِلَّهِ

اور شکر کرو واسطے اللہ کے

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اور ڈرو اللہ سے تو کہ تم نفع کو پہنچو

وَيَزُودُوا وَإِن خَيْرَ النَّارِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ

اور زچ کیا کر پس عمیق بہتر فائدہ خرچ کا بچنا ہے سوال سے اور ڈرو مجھے

يَأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

ای صاحبو عقل کے

قُلْ أُوَسِّعُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ

کہہ کیا خبر دہنیں تمکو ساتھ بہتر کے اس سے واسطے ان لوگوں کے کہ پرہیزگاری کرتے ہیں

رَبِّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

سب اونگے بہشتیں ہیں چلتی ہیں نیچے اونس کے ہرین ہمیش رہنے والے

فِيهَا قَارُونَ وَاجْرُ مَطْمَرَةَ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ

ہجر اوسکے اور بی بیان پاک کی ہو نہیں اور رضامندی سے اللہ کی طرف سے

الصّٰدِقِیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالْمُتَّقِیْنَ وَالْمُسْتَفِیْقِیْنَ	۲۰	سُورَةُ الْعَمْرِ	سُورَةُ الْعَمْرِ
وہ جو صبر کرے، ایمان لائے اور سچے اور خدا پرورداری کرے، ایمان لائے اور خیر کرنے والے			
وَالْمُسْتَفِیْقِیْنَ بِالْأَسْحَارِ			
اور جھٹکے والے بیچ بچھلی رات کے			
يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰوٰتِهٖ	=	=	سُورَةُ الْعَمْرِ
ای لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے حق ڈرنے اور سچے			
فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُوْنَ	۱۳	=	=
پس ڈرو اللہ سے تو کہ تم شکر کرو			
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ	۱۴	=	=
اور ڈرو اللہ سے تو کہ تم چھٹکارا پاؤ			
فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ ۗ لَئِنَّ اللّٰهَ لَیَحِیْتُ الْمُنٰوَكِلِیْنَ	۱۵	=	=
پس جب قصد مقرر کرے تو پس اعتماد کر اور پر اللہ کے سچیتق اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنا چاہو			
وَعَلَى اللّٰهِ فَلَیْتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُوْنَ	=	=	=
اور اور پر اللہ پس توکل کریں ایمان والے			
وَإِنْ لِّصَبْرِ وَوٰسِعُوْا فَاِذْ لٰکَ مِنْ عَزْمِ اُمُوْرٍ	۱۹	=	=
اور اگر صبر کرو تم اور پر ہیز گاری کرو پس سچیتق یہ ہمت کے کاموں سے ہے			
يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرٰبِطُوْا	۲۰	سُورَةُ الْعَمْرِ	سُورَةُ الْعَمْرِ
ای لوگو جو ایمان لائے صبر کرو اور تہام رکھو دوسری کو اور دل لگاؤ رکھو			
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ			
اور ڈرو اللہ سے شاید کہ تم چھٹکارا پاؤ			

<p>کرتنا النسا ۱</p>	<p>۱</p>	<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝</p> <p>اے لوگو! ڈرو پروردگار اپنے سے جس نے پیدا کیا تمکو اور پہلا سے جان ایک سے اور پیدا کیا اس سے جوڑا اوسکا اور پہلا سے ان دونوں سے مرد بہت اور عورتیں اور ڈرو اللہ سے جسکے نام سے مانگتے ہو آپس میں اور ڈرو قرابت سے تحقیق اللہ سے</p>
<p>والحصن ۱۱</p>	<p>۱۱</p>	<p>وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝</p> <p>اور پروردگار اور پر اللہ کے اور کفایت ہے اللہ کام بنانے والا</p>
<p>۱۹</p>	<p>۱۹</p>	<p>إِنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۝</p> <p>پر ہیزگاری کرو اللہ کی</p>
<p>لا یحیی الله ۹ مائدہ ۱</p>	<p>۱</p>	<p>وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝</p> <p>اور مددگاری کرو اور پہلا کی اور ہیزگاری کے اور مت مددگاری کرو اور گناہ کے اور تقوی کے اور ڈرو اللہ سے تحقیق اللہ سخت عذاب کر سکتا ہے</p>
<p>۱۱</p>	<p>۱۱</p>	<p>وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝</p> <p>اور ڈرو اللہ سے تحقیق اللہ جلد لینے والا ہے حساب کا</p>

۴	۳	کتابت سائده	وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ	اور ڈرو اللہ سے تحقیق اللہ جاننے والا ہے سینوں والی بات کو
۲	=	=	وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ	اور ڈرو اللہ سے تحقیق اللہ خبردار ہے سب سے اچھے کرنے والے ہونے
=	=	=	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ	ای لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو نعمت اللہ کی اور اپنے
			إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَسْطُرُونَ إِلَيْكُمْ أَيُّدِيَهُمْ فَلَمَّ	جس وقت فصد کیا ایک جماعت نے یہ کہ دراز کر میں طرف تمہارے ہاتھ اپنے کو پس بند کیے
			أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ	ہاتھ انکے تھے اور ڈرو اللہ سے اور اللہ کے پس چاہئے کہ توکل کریں ایمان والے
۲	=	=	وَعَلَى اللَّهِ فَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ	اور اللہ کے پس توکل کرو اگر ہو تم ایمان والے
۶	=	=	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ	ای لوگو جو ایمان لائے ڈرو اللہ سے اور ڈھونڈو ہونے کے وسیلہ
۳	اعرف	ولوانا	وَلْيَأْسُ الْتَقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ	اور بہنا داجا لوگو کا یہ بہتر ہے
۴	انفال	قال اللہ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ تَعْلَمَ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ	ای لوگو جو ایمان لائے ہو اگر یہ سرگاری کرو گے اللہ سے
۶	=	=	وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ	اور صبر کرو تحقیق اللہ ساتھ صبر والوں کے ہے

<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ</p>	<p>۱۵</p>	<p>توبہ</p>	<p>بیتدرود</p>
<p>وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ</p>	<p>۱۶</p>	<p>=</p>	<p>=</p>
<p>فَأَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ</p>	<p>۴</p>	<p>ہود</p>	<p>۱۳ مائدہ</p>
<p>وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ</p>	<p>۱۰</p>	<p>=</p>	<p>=</p>
<p>وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ</p>	<p>۲</p>	<p>ابراہیم</p>	<p>۱۳ دعا</p>
<p>وَأَن تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَإِن كُنْتُمْ مِنْكُمْ أُمْرِقِينَ</p>	<p>۵</p>	<p>=</p>	<p>=</p>
<p>اللَّهُ لَا يَخْصِي سَخِرَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِ الْكَافِرِ</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>وَلْيَرْزُقِ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ ثَمَرِهِمْ أَجْرًا</p>	<p>۱۳</p>	<p>النحل</p>	<p>=</p>
<p>مَنْ جَاءَكَ مِنْكُمْ فَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ لَمْ يُعَلِّمْهُ يَاقُولُونَ</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>حَيَاةً طَيِّبَةً وَلْيُزَكِّهِمْ أَجْرًا كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

سجنا النحل	۱۵	وَاشْكُرُوا لِعِمَّةِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ اللہ شکر کرو نعمت اللہ کی اگر سو تم اس کی عبادت کرتے
=	۱۶	وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور صبر کرو اور صبر تمہارا مگر ساتھ اللہ کے
سجنا کھف	۲۷	وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ اور روک رکھہ جان اپنی ساتھ ان لوگوں کے کہ پکارتے ہیں پروردگار اپنی کو صبح کو اور شام کو چاہتے ہیں رضامندی اور نہ پھر جاوین انہیں تری آنے
قال الرسول مروجہ	۲	تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ ارادہ کرے تو بناؤ زندگی دنیا کا
افتریب الحجر	۱	تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا یہ وہ بہشت ہے کہ وارث کرتے ہیں ہم اسکا بندوں اپنے میں سے اس عسکر پروردگار سے
قال الذین الفرقان	۵	وَأَصْطَفِ لِعِبَادَتِهِ اور صبر کرو واسطے عبادت اس کی کے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا ای لوگو ڈرو پروردگار اپنے سے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ اور توکل کر اوپر اس زندہ کے کہ نہیں مرنے اور پاکی بیان کر ساتھ تعریف اس کی کے اور بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا ساتھ گناہوں بندوں اپنے کے جبردار

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝	۶	وقال الله الشعر ۱۹
پس ڈرو اللہ سے اور کہا انور		
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝	۷	=
پس ڈرو اللہ سے اور کہا انور		
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّكُمْ يُتَوَكَّلُونَ ۝	۶	المنكبو ۲۱
جن لوگوں نے صبر کیا اور اپر پروردگار اپنے کے توکل کرتے ہیں		
إِنِ اشْكُرْ لِلَّهِ مِن شَيْءٍ زَادْنَا لَهُ شُكْرَهُ ۝	۲	الرحمان
یہ کہ شکر کرو اللہ کے جو کوئی شکر کرے ہم نے اس کے شکر کو بڑھا دیا ہے اور جو شکر کرے وہ بڑھتا رہتا ہے		
وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ ۝	=	=
اللہ صبر کرو اور جو چیز کے کہ پہنچے تمکو سختی یہ بڑے کاموں سے ہے		
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُمْ	۲	=
اسے لوگو ڈرو پروردگار اپنے سے		
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝	۱	الاحزاب
اور توکل کرو اور اللہ کے اور کفایت ہے اللہ کا رستہ		
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝	۹	مہینت ۲۲
ای لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور کہو بات مضبوط		
يُصِرْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝		
سنوار دینا تمہارے اعمال تمہارے اور بخشنا تمہارے گناہ تمہارے		
رَجَعُوا إِلَىٰ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّاكِرِينَ ۝	۲۱	الاسبأ
میل کرو اسی ال داؤد کی واسطے شکر کے اور تھوڑے ہیں بندوں میں سے شکر کرنے والے		

<p>كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ</p>			
<p>کہاؤ رزق پروردگار اپنے کے کھادو اور شکر کرو واسطے اُس کے</p>			
<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ ذَكِّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ</p>	۱	مَنْ يَتَّقِ	الْفَاطِرَ
<p>ای لوگو یاد کرو نعمت اللہ کی</p>			
<p>إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ</p>	۲	ص	مَعَالِي
<p>تجیق پایا ہم نے اور کو صبر کرنے والا</p>			
<p>قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا النِّقَاطُ بِكُمْ لِلَّذِينَ</p>	۲	الْمُحْسِنِ	مَنْ يَظْلَمُ
<p>کہہ ای بندوں میرے جو ایمان لائے ہو ڈرو پروردگار اپنے سے واسطے اور لوگوں</p>			
<p>أَحْسِنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً تَمَورِضُ لِلَّهِ</p>			
<p>کہ نیکی کرتے ہیں نیچ اس دنیا کے نیکی ہے</p>			
<p>وَأَسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ</p>			
<p>کٹاؤ ہے سوا کے نہیں کہ پورا دیے جا دیئے صبر کرنے والے تو اب اپنا حساب</p>			
<p>يُعْبَادِ وَالْقَوْنِ</p>	۳	=	مَنْ يَظْلَمُ
<p>ای بندو میرے پس ڈرو مجھے</p>			
<p>قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ</p>	۲	=	=
<p>کہہ کہ کفایت ہے مجھ کو اللہ اور پورا اسکے توکل کرتے ہیں سب توکل کرنے والے</p>			
<p>بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ</p>	۷	=	=
<p>بلکہ اللہ ہی کو پس عبادت کر اور ہو شکر کرنے والوں سے</p>			
<p>قَاتِلُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا</p>	۶	المشراء	فَقَالَ الَّذِينَ
<p>پس ڈرو اللہ سے اور کہا مالو میرا</p>			

<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ</p>	<p>۲</p>	<p>۲۴ حم الحجرات</p>
<p>وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ كُرْمَكُمْ</p>		
<p>عِنْدَ اللَّهِ أَثْقَلُ</p>		
<p>إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا أَرَاهُمْ</p>	<p>۱</p>	<p>الذَّائِبَاتِ</p>
<p>إِهِمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ</p>		
<p>الْبَلِّ مَا يَجْعَلُونَ وَيَالِ الْأَسْمَارِ هُمْ يَسْتَعْمِدُونَ</p>		
<p>وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ</p>		
<p>فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمُ تُكَذِّبُونَ</p>	<p>۱</p>	<p>۲۷ خطبة قال فاعلموا الرحمن</p>
<p>وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ</p>	<p>=</p>	<p>=</p>
<p>وَالْقَوَالِ اللَّهِ</p>	<p>۳</p>	<p>۲۸ قد سمع الله الحشش</p>

<p>فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا سَطَعْتُمْ</p>	<p>۲</p>	<p>قد سمع الله التغابن</p>
<p>پس درو اللہ سے جتنا ڈر سکو تم</p>		
<p>وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ</p>	<p>۱</p>	<p>الطلاق</p>
<p>اور جو کوئی ڈرے اللہ سے کرے گا واسطے اسکے راہ نکلنے کی اور رزق دیکھا اوسکو</p>		
<p>حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ</p>		
<p>اوس جگہ سے کہ نہیں گمان کرتا اور جو کوئی توکل کرے اور اللہ کے پس وہ</p>		
<p>حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ</p>		
<p>کفایت ہے اوسکو تحقیق اللہ پہنچنے والا ہے ارادہ اپنے کو تحقیق مقرر کیا ہے اللہ سے واسطی ہر چیز</p>		
<p>وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ</p>	<p>۱</p>	<p>=</p>
<p>اور جو کوئی ڈرے اللہ سے کرے گا واسطے اسکے کام اسکے سے آسانی یہ ہے</p>		
<p>أَمْرًا اللَّهُ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ مِنَ يَتَّقِ اللَّهُ يُكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِهِ</p>		
<p>حکم خدا کا آتا ہے اوسکو طرف تمہارے اور جو کوئی ڈرے اللہ سے دور کرے گا اہل سے برائیوں</p>		
<p>وَيُعْطِيهِمْ أَجْرًا</p>		
<p>اور پڑا دیکھا اوسکو ثواب</p>		
<p>فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ</p>	<p>۱</p>	<p>=</p>
<p>پس ڈرو اللہ سے ای عقیلوں</p>		
<p>وَالرُّجْزَ وَأَنْ يَكْفُرُوا لَكُمْ تَسْتَلِذُّوهُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ</p>	<p>۱</p>	<p>تبرکات المدثر</p>
<p>اور پلیدی کو پس چھوڑ دے اور مت دے کسیکو زیادہ لینے کو اور واسطے پروردگار تمہارے</p>		
<p>هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ</p>	<p>۲</p>	<p>=</p>
<p>وہ ہے لاین ڈرنے کے اور لاین بخشنے کے</p>		

۳۳	شمس	۱	فَالْمُهَاجِرَاجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
			پس جس میں زالی اور کئے مکاری اور سکی اور پرہیزگاری اسکی بختیں براد کو ہو چکا جسے پاں کیم سکو
			وَيَذَّابُنَا مِنْ دَشِيمَاهَا
			اور بختیں نامراد ہوا جسے نیر گاڑ دیا اور سکو
		۱	وَإِنْ أَيْنِسْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَذُرُونِي
			اور جو نیت پروردگار تیری کی ہے پس بیان کر
			منع خوف غیر از خدا
	سپارہ سورت	رکوع	آیات
	سینقل البقرہ	۱۸	فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
			سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو
			احکام جہاد و ہجرت و غنیمت و جزیہ و شہادت فی خمس
	سپارہ سورت	رکوع	آیات
	سینقل البقرہ	۱۹	وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ
			اور مت کہو واسطے ان لوگوں کے جو مارے جاتے ہیں بیچ راہ خدا کے کہ مرد ہیں
			بَلْ أحيَاءٌ وَاَلَيْسَ لَنَا نُشْعُرُونَ
			بلکہ زندہ ہیں و لیکن تم نہیں سمجھتے
		۲۴	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ
			اور لڑو بیچ راہ خدا کے ان لوگوں سے کہ لڑتے ہیں تم سے
		۲۶	كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ
			لکھا گیا اور تمہارے لڑنا اور وہ مکروہ ہے واسطے تمہارے

<p>وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ</p>	<p>۳۲</p>	<p>سَيَقُولُ الْبَقْر</p>	<p>سَيَقُولُ الْبَقْر</p>
<p>اور لڑو بیچ راہ خدا کے</p>			
<p>وَلَا تُحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا</p>	<p>۱۷</p>	<p>لَتُنْفَا الْعَمَل</p>	<p>لَتُنْفَا الْعَمَل</p>
<p>اور مت گمان کرو ان لوگوں کو کہ مارے گئے بیچ راہ خدا کے مردے</p>			
<p>بَلَا يَضِيعُ أَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ</p>	<p>۱۱</p>	<p>۱۱</p>	<p>۱۱</p>
<p>نہیں ضائع کرتا ثواب ایمان والوں کا</p>			
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ</p>	<p>۱۵۱</p>	<p>طَلْحَةَ النَّسَاء</p>	<p>طَلْحَةَ النَّسَاء</p>
<p>اگر تم لوگوں کو یاد دلاؤ کہ تمہاری جان بچاؤ اور تمہاری جان بچاؤ</p>			
<p>ہر دوسرت دیکھو قرآن مجید</p>		<p>قال الملا</p>	<p>قال الملا</p>
<p>وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا</p>	<p>۴</p>	<p>واعلموا التوبة</p>	<p>واعلموا التوبة</p>
<p>اور جن لوگوں نے کہ وطن چھوڑا بیچ راہ اللہ کے پیچھے اسکے کہ ظلم کئے گئے</p>			
<p>لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجْرٌ آخِرَةٌ أَلَمْ يَكُن</p>			
<p>ابستہ جگہ دینے ہم ان کو دنیا میں دنیا کے اچھی یعنی مہاجرین کو اور ابستہ ثواب آخرت کا بہت بڑی</p>			
<p>لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ</p>			
<p>کاٹنے ہوتے جانتے جن لوگوں نے صبر کیا اور پررب اپنے کے اڈکل کرتی ہیں</p>			
<p>قَرَانَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قَاتَلُوا</p>	<p>۱۲</p>	<p>۱۲</p>	<p>۱۲</p>
<p>پس جنت پروردگار تیرا واسطے ان لوگوں کے کہ وطن چھوڑ ملتے ہیں یہ ہے اسکے کہ ایذا دی گئے</p>			
<p>ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>			
<p>پھر جہاد کیا انہوں نے اور صبر کیا جنت پروردگار تیرا پیچھے اسکے ابستہ جتنے مالا مہربان ہے</p>			

رقبہ	الفعل	۱۶	<p>وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ <small>اور اگر بدل لالو تم پس بدلا لور برابر ایجنز کے کہ ایذا دیے گئے ہو تم ساتھ اُس کے</small></p> <p>وَلَيْنَ صَبْرْتُمْ هُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ <small>اور اگر صبر کرو تم بہتر ہے واسطے صبر کرنے والوں کے اور صبر کرو</small></p> <p>وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا <small>اور نہیں صبر تیرا مگر ساتھ اللہ کے اور مت غم کھا اور پر اُنکے اور مت</small></p> <p>تَكَ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ <small>ہو یہم تنگی کے اس سے کہ کر کرتے ہیں تحقیق اللہ ساتھ اُن لوگوں کی ہے</small></p> <p>أَتَقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ <small>پرہیز گاری کرتے ہیں اور ساتھ اُنکے کہ وہ احسان کرنے والے ہیں</small></p>
اقترا	الحج	۶	<p>أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَكْثَرِ ظُلْمٍ وَإِذَا <small>اذن دیا گیا واسطے اُن لوگوں کے کہ زیادتی کیے جاتے ہیں سبب سے کہ وہ ظلم کئے گئے ہیں</small></p> <p>عَلَىٰ أَنْصَرِهِمْ لِقَدِيرٍ <small>اوپر مدد اُنکے کے البتہ قادر ہے</small></p>
امل ساوا	لعتكبو	۶	<p>يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ <small>ای بندو میرے جو ایمان لائے ہو تحقیق زمین میری کشادہ ہے</small></p> <p>فَأَيُّهَا قَاعِبُدُونِ <small>پس مجھی کو عبادت کرو تم</small></p>
حم ۳۶	محمد	۱	<p>فَإِذْ لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ <small>پس جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے کہ کافر ہو سے پس مارو گروہن اوٹلی</small></p>

<p>تَعْرِفْهَا لَهُمْ وَيَكْفُو قُرْآنَ شَرِيفٍ</p>			
<p>اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ ایمان لائے کیوں نہیں آماری جاتی کوئی سورت</p>			
<p>وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَلَتْ سُورَةٌ</p>	۳	حما	۲۴
<p>اور کہتے ہیں تم جہاد کرو اور تم میں سے اور</p>			
<p>وَلِنَبِّئُكُمْ مِمَّا تَكْمُرُ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا لَكُم مِّنْهَا مَخْرُوجٌ</p>	۳	=	=
<p>ممبر کہ نبیوں کو اور آزمائشیں ہم خبریں بہت سی کو</p>			
<p>ساری سورۃ فتح ویکھو قرآن مجید</p>			
<p>لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفِتْرِ وَقَاتَلَ</p>	۱	الحديد	۲۴
<p>نہیں برابر تم میں سے وہ شخص کہ جس نے خرچ کیا تھا پہلے فتح کے سے اور لڑائی کی تھی</p>			
<p>أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا</p>			
<p>یہ لوگ بڑے ہیں درجوں میں ان لوگوں سے کہ خرچ کیا انہوں نے</p>			
<p>مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ</p>			
<p>پہچھ اس سے اور لڑائی کی اور ہر ایک کو وعدہ دیا اللہ نے اچھا</p>			
<p>وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ</p>			
<p>اور اللہ سب سے بخیر کے کہ کرتے ہو تم جہاد ہے</p>			

۲۸ قد سمع الله	الحشر	۱	مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
جو کچھ پھر لایا اللہ اور رسول اپنے کے ان بستیوں والوں سے			
فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ			
پس واسطے خدا کے اور واسطے رسول کے اور واسطے قرابت والیکے اور یتیموں کے اور			
الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا يَكُونُ دَوْلَتَيْنِ			
فقروں کے اور مسافروں کے تو کہ ہوسے ہاتھوں ہاتھ لیسنا اور میان			
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ			
دولتمندوں کے تم میں سے اور جو کچھ دیوے تم کو رسول پس لیتو اسکو			
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا			
اور جو کچھ منع کرے تم کو اس سے باز رہو			
=	المتحنہ	۲	لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ دِكْحُو قُرْآنِ مُحَمَّدٍ
ہتھیوں کو منع کرتا اللہ ان لوگوں سے			
=	الصف	۱	إِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ الَّذِينَ
الایہ دیکھو قرآن مجید			
تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو			
=	=	۲	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ
یہی لوگو جو ایمان لائے ہو خبردار کو نہیں تمکو			
=	التخریب	۲	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ
اسی نبی جہاد کر کافروں اور منافقوں سے اور سختی کر			
عَلَيْهِمْ وَمَا وَلِيَهُمْ جَهَنَّمُ وِبِئْسَ الْمَصِيرُ			
اور ان کے اور جگہ رہنے انہی کی دوزخ ہے اور رزی ہے جگہ پیر جاتی			

<p>احکام نکاح و مہر و مباشرت و طلاق و عدت و ضاعت و ذکر زمان محرمات و حکم نکاح بیوہ و غیرہ</p>			
<p>آیات</p>	<p>رکوع</p>	<p>سورت</p>	<p>سپارہ</p>
<p>وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا بِمَا وَدَّعَوْا</p>	<p>۲۷</p>	<p>البقرہ</p>	<p>سینقول</p>
<p>اور مت نکاح کرو مشرک کرنے والوں کو یہاں تک کہ ایمان لاویں اور اپنی لوطی</p>			
<p>مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَكَوْا عَجَبًا ۗ وَلَا</p>			
<p>ایمان والی بہتر ہے مشرک کرنوالی سے اور اگرچہ خوش لگے تمکو اور مت</p>			
<p>تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٍ</p>			
<p>نکاح کرو مشرک کرنوالوں سے یہاں تک کہ ایمان لاویں اور اپنے غلام ایمان لائیں</p>			
<p>خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَكَوْا عَجَبًا ۗ</p>			
<p>بہتر ہے مشرک کرنوالے سے اور اگرچہ خوش لگے تمکو</p>			
<p>لِّلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ نَحْمٌ رُّكُوعٌ ۝۳۱ وَكَيْفَ فَرَّقَانِ</p>	<p>۲۸ و ۲۹</p>	<p>=</p>	<p>=</p>
<p>دوسرے ان لوگوں کے کہ تمہیں کہاتے ہیں عورتوں اپنی سے</p>			
<p>فَانِكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ</p>			
<p>پس نکاح کرو جو خوش لگے تمکو سوا سے عورتوں سے دو دو اور جن میں</p>			
<p>وَرِبْعٍ اَوْ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةٌ</p>			
<p>اور چار چار ہیں اگر ڈرو تم پہ کہ نہ عدل کرو تم پس ایک ہی</p>			
<p>اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَعْدِلُوْا</p>			
<p>یا جسکے مالک ہوں اور جسے تمہارے یہ سبب نزدیک ہے اس سے کہ نہ ہی ایمانی کرو</p>			

وَاتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَأْتُونَ بِهِنَّ إِذَا كُنْتُمْ تَنْكِحُوهُنَّ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ			
اور دو عورتوں کو ہر ایک کے خوشی سے پس اگر خوشی سے دین تکو			
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِيَ بُرِيءٌ عَنَّا ○			
کچھ چیز اور ہم سے جس سے پس کہاؤ اسکو سہتا بیچتا			
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ	۳	النساء	تین
ای لوگو جو ایمان لائے ہو جنہن حلال واسطے تمہارے یہ کہ وارث ہو جاؤ عورتوں کے			
كُرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِهِنَّ			
رزدستی اور مت منع کرو ان کو تو کہ یلو			
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ تَاعِلِيَا خَيْرًا دِكْهُوَ قُرْآنِ كَرِيمِ	۶	=	والمحصنات =
مرد قائم رہنے والے ہیں یعنی حاکم ہیں اور عورتوں کے			
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ لِلَّهِ يَفْتِيكُمْ مَا مَلَائِكَةُ	۱۹	=	=
اور فتویٰ پوچھتے ہیں مجھے نیم عورتوں کے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے			
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ	۱	ماثله	کایم اللہ
اور پاک و امین مسلمانوں میں سے اور پاک و امین ان لوگوں میں کہ			
أُولُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكَ إِذْ أَيْمَنُوا بِحُرِّ			
کہ دی گئی ہیں کتاب پہلے تھے جب دوئم انکو ہر ایک کے			
مُحْصِنِينَ خَيْرِ مَسَافِحِينَ وَلَا مَنجِزِي أَخْدَانِكُمْ			
نکاح میں لایوالے اور نہ بدکاری کرنوالے اور نہ کھڑنے والے بیچھے آستنا			
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ			
اور جو کوئی کفر کرے ساتھ ایمان کے پس بھٹن کہو سے گئے عمل اسکے اور وہ بیچ آخرت کے			

<p>مِنَ الْخَيْرِ ۝</p>			
<p>وَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الْوَالِدِينَ</p>			
<p>الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الرَّزَائِيَةَ أَوِ الْمُشْرِكَةَ وَالزَّانِيَةُ لَا</p>	۱	النور	قد افلح
<p>زنا کر نبیوالا نہیں کرتا مگر زنا کر نبیوالی کو یا بت پرست کو اور زنا کر نبیوالی نہیں</p>			
<p>يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ</p>			
<p>نکاح کرنا اور سکو مگر زنا کر نبیوالا یا بت پرست اور حرام کیا گیا ہے یہ اور پر مسلمانوں کے</p>			
<p>وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ</p>	۲	=	=
<p>اور نکاح کرو راندوں کو اپنے میں سے اور لائق والوں کو علاموں اپنے میں سے</p>			
<p>وَأَمَّا كُمْ أَنْ تَكُونُوا قَرَابِعَ يُعْزِمُ اللَّهُ مَرْفُضًا</p>			
<p>اور لو تیرے ایسی ہیں اگر ہونگے غیر حاجت روائی کرنا اللہ مرفض ہے</p>			
<p>مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا</p>	۱	الاحزاب	۲۱
<p>اور نہیں کئے اللہ نے واسطے کسی شخص کے دو دل بیچ پیٹا کے اور نہیں</p>			
<p>جَعَلَ زَوْجَكُمْ إِلَيْ تَضَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ</p>			
<p>کیا بی بی ہوں تمہاری کو جگہ مان کہہ لیتے ہیں اونسے ماہین تمہاری</p>			
<p>وَمَا جَعَلَ دُعَاءَكُمْ أَنْبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ</p>			
<p>اور نہیں کہا لے ہا کون تمہارے کو بیٹے تمہارے یہ ہے بت کہنا تمہارا ساتھ ہونے</p>			
<p>وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ</p>			
<p>سچ اور وہ دکھاتا ہے راہ</p>			
<p>لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ</p>	۱	=	۲۲
<p>لو کہ نہ ہوے اور ایمان والوں کے تنگی بیچ بیبیوں کے ہا کون کے</p>			

ادْعِيَا لِيَوْمِ إِذَا اقْتَضُوا مِيثَاقَهُمْ وَطَرَاهُ

سے بلکون لٹکے کے جب ادا کر لیں اور ستر حاجت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

ای لوگو جو ایمان لائے ہو جو وقت کہ نکاح کر تم ایمان والیوں کو پھر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

طلاق دو تم انکو پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ انکو پس انہیں واسطے تہنہ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْنِ سِرِّ جَوْهَرٍ

اور پورا وہی گنتی دنوں کی کہ گنو انکو پس کچھ فارمہ دو انکو اور رخصت کرو انکو

سِرًّا حَاجِبًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ

رخصت کرنا اچھا ای نبی تحقیق سننے حلال کیں واسطے تیرے

أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ جَوْهَرًا وَمَلَكَتْ يَمِينُكَ

رہی بیان تیری وہ جو دیا ہے تونے ہر انکا اور جنکا کہ مالک ہوے

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ

دائرا ہاتھ تیرا او پچھری کہ پہر لایا ہے اللہ اور پیرے یعنی طرف تیرے مال کفار سے اور بیٹیاں چچاؤں

وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ

اور بیٹیاں ماموں تیرے کی اور بیٹیاں خالاؤں تیرے کی وہ جو وطن چھوڑ آئی ہیں ساتھ تیری

وَأَمْرًا مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهُنَّ إِنْ أَرَادَ

اور حلال کی عورت ایمان عالی اگر پچھری سے یعنی بغیر ہر کے مان اپنی واسطے نبی کے اگر ارادہ کری

النَّبِيُّ أَنْ يَنْكِحَ مَا خَالَصَّكَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ

نبی یہ کہ نکاح کرے انکو خالص واسطے تیرے یعنی واسطے اپنے سوائے مسلمانوں کے

قَدَعَلْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا

تعمیر

تحقیق جان لیا ہے ہم نے جو کچھ مقرر کیا ہے تمہارے اور اپنی کے بیچ حقون بی بیوں اور عورتوں

مَلَكَ أَيْمَانَهُمْ لِكَيْلَا يَكُورَ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ حُرٌّ وَكَانَ

کہ مالک ہوئے ہیں دابنے ہاتھ آنکے تو کہ جو اور تیرے نقلی اور ہے

لِللَّهِ عَفْوٌ رَاحِمٌ ۝

اللہ بخشنے والا مہربان

الَّذِينَ يَطْمَئِنُّونَ مِنَ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ

۲۸ قد سمع الله المجادلة

جو لوگ کہ ظہار کرتے ہیں تم میں سے بی بیوں اپنی سے نہیں ہو جائیں وہ

أُمَّهَاتِهِمْ أَنْ آمَنَهُنَّ إِلَّا إِلَىٰ وَكُنَّ

مابین اونکی نہیں مابین اونکی مگر جنوں نے چاہے اور کو

وَإِهْمُ لِيَقُولُونَ مَنكراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوجاً

اور تحقیق وہ اللہ کہتے ہیں نامقول بات اور جوڑا

وَأَنَّ اللَّهَ لَعَفْوٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يَطْمَئِنُّونَ

اور تحقیق اللہ اللہ سزا کرنے والا بخشنے والا ہے اور جو لوگ ظہار کرتے ہیں بیویوں

تَمَّ يَعُودُونَ وَإِنَّمَا قَالُوا قَوْلَ رِقَبَةٍ مِّنْ قَبْلُ

پہر پہر جاتے ہیں طرف اس چیز کے کہ کہا تھا پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا ہے

أَنْ يَمَسَّ سَاقَكَ لِتَعْطُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اس سے کہا ایک ہاتھ کو ہاتھ لگا دین یہ نصیحت دینے جاتے ہو تم سناہ اس کے اور اللہ سناہ اس کے کرتے

خَيْرِينَ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ مِّمَّا بَعَدَ

بہتر ہے جس کو کوئی نہ پاوے پس روزے ہیں دو مہینے کے بے درجے

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّسِلَ مِنْكُمْ لِيُطْعَمُوا فِطْرًا

پہلے اس سے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا دیں پس جو کوئی نہ سکے پس کھانا کھلانا ہے

لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

ساتھ فقروں کو

پوری سورت دیکھو قرآن مجید

قد سمع الله طلاق

احکام پردہ و شتر و حجاب وغیرہ

آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

ای لوگو جو ایمان لائے ہو مت داخل ہو گروں سوائے

بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَلَسِي مَوَاعِلَ أَهْلِهَا

گھروں اپنے کے یہاں تک کہ اذن لو اور سلام کرو اور پر رہنے والوں اور نکلنے کے

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَزْكُرُونَ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي

یہ گھر ہے واسطے تمہارے تو کہ تم نصیحت کرو پس اگر بناؤ بیچ

فِيهَا أَحَدٌ أَفَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ

بیچ اور نکلنے کیسکو پس مت داخل ہو آمین یہاں تک کہ اذن دیا جاوے واسطے تمہارے

وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اذْجِعُوا فَارْجِعُوا أُولَٰئِكَ

اور اگر کہا جاوے واسطے تمہارے پھر جاؤ پس پھر جاؤ وہ پاکیزہ ہے واسطے تمہارے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۚ

اور اللہ ساتھ اور پھیرنے کے ہے کہ کرتے ہو تم مابنے والا نہیں اور تمہارے گناہ

أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ

یہ کہ داخل ہوگروں میں کہ کوئی نہیں رہتا انہیں یہ آگے دیر ہے اسباب بہارا

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْمُونَ قُلْ

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو

لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوبُونَ مِنْ بَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ أَعْيُنَهُمْ

وہ اسلئے مسلمان مردوں کے کہ بند کریں آنکھیں اپنی اور محافظت کریں نظر انہیں

ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

یہ بہت پاکیزہ ہے واسلئے انکے تحقیق اللہ خبردار ہے سادہ اور سچے کے کہ کرتے ہیں

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ بَصَارِهِنَّ وَ

اور کہہ دو اسلئے مسلمان عورتوں کے کہ بند کریں آنکھیں اپنی اور

يَحْفَظْنَ رُءُوسَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

محافظت کریں شرمگاہ اپنی کی اور نہ ظاہر کریں بناؤ اپنا مگر جو

ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ

ظاہر ہے اوہیں سے اور چاہیے کہ ڈالیں اور نہ بیان اپنی اور کریاؤں اپنے کے

وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

اور نہ ظاہر کریں بناؤ اپنا مگر واسلئے خاندانوں اپنے کے یا باپوں اپنے کے

أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

یا واسلئے باپوں خاندانوں اپنے کے یا بیٹوں اپنے کے یا بیٹوں خاندانوں اپنے کے

أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

یا بہائیوں اپنے کے یا بیٹوں بہائیوں اپنے کے یا بیبیوں اپنے کے

أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمَانُكُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي

دائجے مالک ہوئے دہنہ ہاتھ اونکے یا جو ساتھ رہنے والے ہیں غیر حاجت

الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ يَبْهَمُونَ

دولے مردوں سے یا لڑکوں سے جو نہیں واقف

عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

اوپر چھپی باتوں عورتوں کے اور نہ ماریں پاؤں اپنے زمین پر تو کہ جانا جاوے

مَا يَخْفَى مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

جو کچھ کہ چھپاتی ہیں زینت اپنی سے اور توبہ کرو طرف اللہ کے سب

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝

اے مسلمانوں تو کہ تم نفع پاؤ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

ای لوگو جو ایمان لائے ہو چاہیے کہ اذن مانگیں تھے وہ لوگ کہ مالک ہوئے ہیں

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

دہنہ ہاتھ تمہارے یعنی غلام اور جو لوگ کہ نہیں چھپتے بلوغ کو تم میں سے ہیں

بَرَاءَتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ

بار پہلے نماز فجر کے اور حقیقت آثار کہتے ہیں

فِئْتَايَكُم مِّنْ لِّظَهْرِ رَجُلٍ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

گپڑے اپنے دوپہر کو اور پیچھے نماز عشا کے

ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ

تین وقت چاروں طرف تمہارے ہیں واسطے تمہارے ہیں اوپر تمہارے اور نہ اوپر انکے گناہ

مُتَّفَعٌ

النساء

۸

بَعْدَ هُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى الْعَصْرِ

پچھے اونکے پرستے والی ہیں اور تمہارے بعض تمہارے اور بعض کے

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے نشانیاں اور اللہ جانتے والا

حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ

حکمت والا ہے اور جوقت کہ پہنچیں انکے تم میں سے بلوغ کو

فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ

پس چاہیئے کہ اذن مانگیں جطرح اذن مانگتے ہیں وہ لوگ کہ

قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

پہلے آئے تھے اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے نشانیاں اور اللہ جانتے والا

حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ

حکمت والا ہے اور بیٹھ رہنے والیاں عورتوں میں سے جو بچپن امید رکھتے

نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ

نکاح کی پس نہیں اور انکے گناہ یہ کہ انار رکھیں

بِنَاءَهُنَّ عَيْرٌ مَبْرُجَاتٍ زَيْنًا وَإِلَيْتُهُنَّ

گڑھے اپنے نہ عذر نہواں ساتھ بناؤ گے اور اگر بچپن اس سے

خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بہتر ہے واسطے انکے اور اللہ سنیے والا ہے

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ

نہیں گناہ اور انکے بچوں اور نہ بچوں میں انکے

وَيُنْفِقْنَ الْآحْرَاءَ

<p>إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ ۝</p> <p>تتقن اللہ ہر چیز کے حساب لینے والا ہے</p>		
<p>وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ</p> <p>اور جب لوگوں کو آیتوں کے ساتھ نشانیاں ہماری کہیں</p>	<p>۴</p>	<p>اذ اسموا الانعام</p>
<p>سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِكُمُ الرِّحْمَةَ تَارِحِم</p> <p>سلامتی ہے اور تمہارے کبھی رب تمہارے لئے اور ذات اپنی کے رحمت</p>		
<p>وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ يَتَّبِعُ اٰهُدٰی ۝</p> <p>اور سلامتی جو مدد اسکے جو اس نے راہ کی بات</p>	<p>۲</p>	<p>قالہ ظہ</p>
<p>وَتَسَلِّمُوا عَلٰی اٰهْلِهَا ۝</p> <p>اور سلام کرو اور پوسٹنے والوں کے لئے</p>	<p>۴</p>	<p>قذافہ النور</p>
<p>فَاِذَا دَخَلْتُمْ بِلَدًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ حَيًّا</p> <p>پس جبوقت کہ داخل ہو تم گھر دن میں پس سلام پہنچو اور اپنی اپنے کے دعا</p>	<p>۸</p>	<p>= =</p>
<p>مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ</p> <p>مقرر کی ہوئی مبارک و پاکیزہ برکت والی پاکیزہ</p>		
<p>احکام جناب کبار و مشع فواش و گناہ</p>		
<p>يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اٰیٰتِ السَّعٰیۃِ وَاجَابَ خَطِئَْةً فَاَوْلٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ</p> <p>ایسا نہیں ہے جو یہ کہتی ہیں بلکہ جو کوئی راہی کرے یعنی شرک کہنے اور گہرے ایسے گناہ اور گناہ</p>	<p>۹</p>	<p>سایہ سورت البقرہ</p>
<p>اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اٰیٰتِ السَّعٰیۃِ وَاجَابَ خَطِئَْةً فَاَوْلٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ</p> <p>الہجہ کے تم بڑے گناہوں سے جو منع کئے جاتے ہو اس سے دور کر دینے</p>	<p>۵</p>	<p>والمحصن النساء</p>

ایسے نہیں ہے جو یہ کہتی ہیں بلکہ جو کوئی راہی کرے یعنی شرک کہنے اور گہرے ایسے گناہ اور گناہ

احکام اکل طلال طیب و طیب ذبیحہ وغیرہ			
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا	۲۱	سَيَقُولُ الْبَقْر	سیدنا سرت
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ	=	=	=
أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ	=	=	لايجز الله المائده ۱
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ	=	=	=
وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا	=	=	=
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فكلوا مما أمسكن عليكم	=	=	=
وَأذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ	=	=	=
الْيَوْمَ مَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ	=	=	=
أَوْ تَوَالِيبِهِمْ حَلَالٌ لَّكُم مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ حَلَالًا	=	=	=
وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا	=	=	=

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْوُوا طَيْبًا فَاحْلَلَهُ

واذا سمع المائدة ۱۲

ای لوگو جو ایمان لائے جو مت حرام کرو پاکیزہ اور بھیر کا کہ طلال کیا ہے

لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

اندھے واسطے تمہارے اور مت کھل جاؤ حد سے تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بھجھا نہ لاکو

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ

اور کھاؤ اور بھیر سے کہ دیا تمکو اللہ نے طلال پاکیزہ اور ڈرو اللہ سے

الَّذِينَ آمَنُوا بِمَوْعِدِنَا

وہ جو ساتھ آئے ایمان لائے والے ہو

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ بِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتُمْ بآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

ولواننا آلائعنا ۱۲

پس کھاؤ اور بھیر سے کہ یاد کیا ہے نام اللہ کا اور اوس کے اگر تم ساتھ نشانوں اسکے ایمان

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ بِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ

اور کیا ہے واسطے تمہارے یہ کہ نہ کھاؤ اور بھیر سے کہ یاد کیا ہے نام اللہ کا اور اوس کے اور تحقیق

فَصَلِّ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ عَلَيْهِ

مفصل بیان کر دیا ہے واسطے تمہارے جو کچھ کہ حرام کیا ہے اور تمہارے مگر جو ناچار ہو تم پر اس کے

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوفَاتٍ تَاغَا لَيْلِينَ

۱۴ = =

اور وہ ہی ہے جس نے پیدا کیے باغ جنتوں پر جو پاس کے ہوئے

رکوع و بچھو تر آن مجید +

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

۱۳ =

اور کھاؤ اور پیو اور مت حد سے نہ بھجھاؤ

واعلموا الانفال	۹	فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ
ربا نخل	۱۵	فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا
قال الم اعلموه	۲	نِعْمَتَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝
اقترب الحج	۴	كُلُوا وَاذْعَبُوا نِعَامَكُمْ ۗ
قد افجر النور	۸	وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يَلِيكُمُ
		لَيْسَ عَلَي الْاَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَي الرَّعْبِ
		حَرْجٌ وَلَا عَلَي الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَي
		اَنْفُسِكُمْ اِنْ تَاَمُّوْا مِنْ بِيُوْتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ
		اَبَائِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اٰخْوَانِكُمْ
		اَوْ بِيُوْتِ اٰخْوَالِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ عَمَّتِكُمْ

أَوْ يُوَدُّ بِالْخَوَالِكُمْ أَوْ يُوَدُّ خَلْتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

یا گھروں یا بیویوں اپنے کے سے یا گھروں یا بیویوں اپنے کے سے یا گھروں یا بیویوں اپنے کے سے

مَقَلَّتْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

کھینچوں اور سیکھے یا آشناؤں اپنے کے سے نہیں اور تمہارے گناہ

أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا

یہ کہ کہاؤ اور کھٹے یا متفرق

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

اور کہاؤ اور کھاؤ رزق اوسکے سے

تبارک الملك ۲

محرمات حیوانات از لحم خنزیر وغیرہ ومنع
اکل اموال باطل و ابلغ بہ حکام

آیات

سپاہ سورت رکوع

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمُ

سیقول البقر ۲۱

سوا سے اسکے نہیں کہ حرام کیا ہے اور تمہارے مردار اور لہو اور گوشت

الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ

سوز کا اور جو کچھ کا را عاوسے اور اس کے سوا خدا کے پس جو کوئی بے بس ہو

غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا حَادٍ فَلَا تُعْرَبُهُ

نہ حد سے نکھانے والا اور نہ چٹے پر نہیں گناہ اور اوسکے

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا

اور مت کہاؤ مال اپنے میں اور مت کہو اپنے ساتھ ناحق کے اور مت کہو باجائز

۲۳ = =

يَهَيِّئُ الْحَكَمَ لِمَنْ يَتَاكَلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ	
انگو طرف مالوں کے تو کہ کہا جاؤ ایک ٹکڑا مال	
النَّاسِ بِالْآثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝	
لوگوں سے سادہ گناہ کے اور تم جانتے ہو	
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم	والمحصنة النساء ۵
ای لوگو جو ایمان لائے ہو مت کہاؤ مال اپنے آپس میں	
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ	
ساتہ باحق کے گریہ کہ ہوئے سوداگری رضا مندی تمہاری	
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ	كحی اللہ ۴ مائدہ ۱
خوام کیا گیا اور تمہارے مردار اور لہو اور گوشت سودا	
وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُحْتَفِقُونَ وَالْمُؤْتَفِقُونَ	
اور جو کچھ بکارا جاوے سو اللہ کے ساتھ اسکے اور کلا گھونٹی اور لاشی ماری	
وَالْمُزْدَرِيَّةُ وَالنَّطِيئَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنَ الرِّمَالِ	
اور اوپر سے گڑھی اور سینگ ماری اور جو کہاگا درندہ گرجو ذبح کر لو تم	
وَمَا ذُجِرَ عَلَى النَّصَبِ لِآيَةٍ	
اور انہیں سے جو ذبح کیاوے اور تہانوں کے	
أَكُلُونَ لِلشُّبُهَاتِ ۝	۶ = =
بڑے حرام کھانے والے	
يُسَارِعُونَ فِي الْآثَمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ	۱۳ = =
دوڑتے ہیں گناہ پر اور زیادتی پر اور حرام	

السُّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كُولَا بَعْضَهُمْ

کہانے پر کیا بڑے کام ہیں جو کر رہے ہیں کیوں نہیں منع کرتے انکو

الرَّيَّانِيُونَ وَالْأَجَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِنْتِمَاءُ وَالْاِطْمِئْنَانُ

درویش اور غلام گناہ کی بات کہنے سے اور حرام

السُّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○

کہانے سے کیا بڑے عمل ہیں جو کر رہے ہیں

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّ

اور مت کھاؤ اس چیز سے کہ نہیں یاد کیا گیا نام اللہ کا اور اسکے اور تحقیق وہ

لَفِسْقٌ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ اِلَى الْاُولٰٓئِهِمْ

الہیۃ فسق ہے اور تحقیق شیاطین ابستہ دوسو سے ڈالتے ہیں طرف دستوں کو

لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

تو کہ جگڑہیں تھے اور اگر کہنے کہا مانا انکا تو تم مشرک ہوے

قُلْ لَا يَجِدُ فِيمَا وُحِيَ اِلَيْكُمْ مَّا عَلٰى طَاعِمٍ

کہہ نہیں پاتا میں بیچ اور چیز کے کہ وحی کیا گیا ہے طرف میرے حرام کیا گیا اور کسی کہا ہوا کے

يُطْعَمُهَا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِثْنًا اَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

کہ کھاوے اسکو گریہ کہ ہو مردار یا لہو والا ہوا رگون میں سے

اَوْ حَمِخْرٍ خَيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اٰهْلٌ لِّغَيْرِ اللّٰهِ

یا گوشت سورکا پس تحقیق وہ ناپاک ہے یا فسق ہے کہ نام لیا گیا ہو واسطے غیر خدا کو

بِهٖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ

ساتھ اسکے ہیں جو کوئی ہے بس ہو نہ بیٹھنے والا اور نہ حاجت سے زیادہ کہا نیز اس تحقیق پروردگار

۱۷ ولواننا انعام

۱۸ ولواننا انعام

			بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَفُورٌ رَحِيمٌ
			تختنے والا مہربان ہے
ربما النحل	۱۵		أَتَاكُمْ عَلَيْكُمْ لِمِيتَةٍ وَالذَّمَّ وَحَمَّ الْخَزِيرِ
			سوا اسکے نہیں کہ حرام کیا اور پر تمہارے مردار اور لہو اور گوشت سورکا
			وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ قَسِيْرٌ صُطْرٌ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا
			اور وہ چیز کہ آواز بند کیجاوے واسطے غیر خدا کے ساتھ اوسکے پس جو کوئی بے بس ہو نہ سکے
			عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ
			اور سے چہیں لینے والا پس تختیق اللہ تختنے والا مہربان ہے
احکام حرمت شراب و وقار و انصاب و ازلام			
سپاہ سورت رکوع	آیت		
سبِقُولِ الْبَقَرِ	۲۷		يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اثْمٌ
			سوال کرتے ہیں تجھے شراب سے اور جو سے کہہ بیچ ان دونوں کے گناہ ہے
			كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُ الْكَبْرِ مِنْ نَّفْعِهِمَا
			بڑا اور فائدے ہیں واسطے لوگوں کے اور گناہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے نفع ان دونوں کے
والمحمت النساء	۷		يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ
			ای لوگو جو ایمان لائے محنت نزدیک جاؤ نماز کے اور ہونم
وَأَذْهِمُوا مَا نَدَّه	۱۳		يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ
			ای لوگو جو ایمان لائے جو سوا اسکے نہیں کہ شراب اور جو اور تھان جنوں کے

<p>وَيٰۤاَيُّهَا الصّٰدِقٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَجِبُ كُفْرًا اَنْتُمْ</p>			
<p>اور بڑھتا ہے خیراتوں کو اور اللہ نہیں دوست رکھتا ہر کفر کو نبیوں کے لئے گنہگار کو</p>			
<p>يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذُرُوْا مٰا بَعَثَ</p>	۳۸	تلك لیل البقرہ	
<p>اسی لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہا ہے</p>			
<p>مِنَ السَّرِيْعٰتِ</p>			
<p>يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا السَّرِيْعٰتِ بَعْضُهَا</p>	۱۲	آل عمران	لن تنال
<p>اسی لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود دونا دو گنے کا</p>			
<p>مُضَعَفٍۭ بِمٰا وَاْتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ</p>			
<p>ہو گئے اور ڈرو اللہ سے تو کہ تم چھٹکارا پاؤ</p>			
<p>وَمَا اَنْتُمْ مِّنْ رَّبِّيْۤا لِيُرِيْۤا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَآ</p>	۴	آل عمران	انما آو
<p>اور جو کچھ کہہ دیتے ہو تم سود کو تو کہ بڑھے بیچ مالوں لوگوں کے پس نہیں</p>			
<p>يُرْبِعُوْا عِنْدَ اللّٰهِ</p>			
<p>بڑھتا نزدیک اللہ کے</p>			
<p>احکام قرض و شہادت و امانت و مہلت بقرضدار مفلس</p>			
<p>آیات</p>	سیارہ سورت رکوع		
<p>وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَلِيْسٍ وَّ اِنْ</p>	۳۸	تلك لیل البقرہ	
<p>اور اگر ہو قرضدار کلی والا پس ڈھیل دینا ہے فراغت تک اور اگر</p>			

تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

خیرات کر دو بہتر ہے یا سب سے تمہارے اگر ہو تم جاننے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْذِكُرْتُمْ بَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ

ای لوگو جو ایمان لائے ہو جب معاملہ کر دو تم ساتھ فرماؤں کے ایک وقت

مُسَمًّى فَاكْتُبُوا لَهُمْ اَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

مقرر تک پس لکھو رکھو اسکو اور چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے لکھنے والا

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ اِنْ يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَ اللّٰهُ

ساتھ انصاف کے اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ لکھے جیسا سکھایا اسکو اللہ نے

فَلْيَكْتُبْ وَهِيَ وَهِيَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ

پس چاہیے کہ لکھدے اور مطلب کہ وہ شخص کہ اوپر اس کے ہے حق اور چاہیے کہ ڈرے اللہ

رَبَّهٗ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْءًا اِنْ كَانَ الَّذِي

پروردگار اپنے سے اور نہ کم کرے او سین سے کچھ پس اگر ہو وہ شخص کہ

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ

اور اس کے ہے حق بیوقوف یا اتوان اور یا نہیں سکتا یہ

اَنْ يَّمْلَ هُوَ فَيَمْلِلْ وَّلِيُّهٖ بِالْعَدْلِ اَسْتَشْهَدُ

یہ کہ مطلب کہ وہ پس چاہیے کہ مطلب کہے ولی اسکا ساتھ انصاف کے اور شاہد کرو

شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ

دو شاہدوں کو مردوں اپنے سے پس اگر نہ ہوں دو مرد

فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٌ مِّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ

پس ایک مرد اور دو عورتیں آمین سے کہ پسند کرتے ہو تم شاہدوں سے

۳۹

تلك الوسيلة البقية

أَنْ تَصِلَ أَحَدَهُمَا فَذَكَرَ إِحْدَهُمَا الْآخَرَ

اگر چہ یہ کہ بھو بجاوے ایک ایمین سے پس یاد دلاوے ایک ایمین کا دوسرے کو

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا

اور نہ انکار کریں شاہد جب بلائے جاویں اور مت کاہلی کر دو

أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ

اس سے کہ لکھو اسکو چھوٹا یا بڑا وقت آسکے تک یہ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ

بہت انصاف والا ہے نزدیک اللہ کے اور سیدھا کرنے والا ہے شہادت کی

أَنْ لَا تَأْتُوا بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

اللہ بہت نزدیک ہے اس سے کہ نہ شک میں بڑو مگر یہ کہ ہو سوداگری ماہوں ہاتھ

تَدِيرُونَ وَنَهَيْتُمْ عَنْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

کہ پھرتے ہو اسکو درمیان اپنے پس نہیں اور تمہارے گناہ

تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ

لکھو اسکو اور شاہد کرو جب سودا کرو تم اور نہ ایذا پہنچا جاوے

كَاتِبِكُمْ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَعُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ

کھینے والا اور نہ گواہ اور اگر کرو تم پس جھٹکن وہ گناہ ہے

بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ساتھ تمہارے اور ڈرو اللہ سے اور سکھاتا ہے تمکو اللہ اور اللہ ہے ساتھ ہر چیز کے جاننے والا

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ

اللہ اگر ہو تم اور سفر کے اور نہ پاؤ تم کھینے والا پس گروی

مَبْرُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

تضرکے ہوئے ہیں اگر امین جانے بعض تمہارا بعض کو پس چاہئے کہ ادا کری

الذِّكْرَ وَأَمِنْ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ أَمَانَةً وَلِيَتَّقِ

وہ شخص کہ امین مانا گیا ہے امانت اوسکی کو اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے پروردگار جیسے سے

اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّ

اور مت چہاؤ گواہی کو اور جو کوئی چہاؤ بیگا اوسکو پس جنت و

أَشْرَفَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

گنہگار ہے دل اوسکا اور امد ساتھ او پھیر کے کہرتے ہو جانے والا ہے

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدَّ الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

تجتن اللہ حکم کرتا ہے تمکو یہ کہ پہچا دو امانتین طرف صاحبون اوسکے کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

ای لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم رہنے والے ساتھ انصاف کے

شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَ

گواہی دینے والے واسطے خدا کے اور اگرچہ اور جانوں لینے کے ہو یا اور پران باپ

الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ قَعِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ

اور قرابت والوں کے اگر ہو وہ شخص دولت مند یا فقیر پس اللہ بہت

بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ

مہربان ہے ساتھ اُنکے میں مت پیروی کرو خواہش کی بیچ اسکے کہ عدل کرو اور اگر

تَلَّوْا أَوْ نَعَرَ صَوًّا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

بیچ دو یا اعراض کرو پس جتن اللہ ہے ساتھ او پھیر کے کہرتے ہو تم خبردار

والمحصنت النساء ۸

۲۰

۹	قالا للذ	الانفال	۳	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَ
				ای لوگو جو ایمان لائے مت خیانت کرو اللہ کی اور رسول کی اور
				تَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأنتُمْ تَعْلَمُونَ ○
				مت خیانت کرو امانتوں اپنی کی اور تم جانتے ہو
۲۸	قد سمع الله	الطلاق	۱	وَأَقِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
				اور دہشت کرو گواہی واسطے خدا کے
				احکام وصیت و ترکہ و میراث
				آیات
سپارہ	سورت	رکوع		كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا
			۲۲	لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ تَعَفُّوْهُمْ
				کھا گیا اور تمہارے جب حاضر ہو ایک کو تم میں سے موت اگر چھوڑ جاوے مال وصیت
				واسطے ماں باپ کے اور قرابت والوں کے ساتھ اچھی طرح کی
				وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
				اور جو لوگ کہ مر جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بی بیان
				وَوَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّا تَرَكَ إِلَى الْوَالِدِ غَيْرِ خَيْرٍ
				وصیت کر جاویں واسطے بی بیوں اپنی کے فائدہ دینا ایک برس تک نہ نکال دینا
				فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ
				پس اگر نکل جاویں پس نہیں گناہ اوپر تمہارے بیچ او سچیز کے کہ کیا انہوں نے
				فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
				بیچ جان اپنی کے اچھی چیز سے اور اللہ غالب ہے حکمت والا

لَوَاتِنَا	النساء	۲۱	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ
			داسطے مردوں کے حصہ ہے اور سچیز سے کہ چھوڑ گئے ہیں ان باپ اور قرابتی
			وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا مَرَثَتُهُنَّ وَهُنَّ عَوْرَتُونَ لِمَا قَدَّهْنَّ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَهُنَّ عَوْرَتُونَ لِمَا قَدَّهْنَ
			اور داسطے عورتوں کے حصہ ہے
وَالْمَحْضَاتُ	=	۵	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ
			داسطے مردوں کے حصہ ہے اور سچیز سے کہ کما تے ہیں اور داسطے عورتوں کے حصہ ہے
			وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَهُنَّ عَوْرَتُونَ لِمَا قَدَّهْنَ
			سچیز سے کہ کما تیاں ہیں
	=	۱۹	وَلِيَسْتَفْتُواكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي مَوَاطِنَ الْأَيْمِ
			اور فتویٰ پوچھتے ہیں جہ سے بیچ عورتوں کے کہہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تگو بیچ ان کے
			الآيَةِ وَيَكْفُرُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ وَالْأَنْبَاءِ
			الآیہ دیکھو قرآن مجید
لَا يَجِبُ اللَّهُ	=	۲۲	قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَاتِ
			کہہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تگو بیچ کلام کے
			وَسُورَاتِ الْبُرْجَانِ وَالْأَنْبَاءِ
			وسورت دیکھو قرآن مجید
وَأَذِمْهُمْ	مَانَعَهُ	۱۲	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
			اسی لوگو جو ایمان لائے ہو گواہی کی در بیان تمہارے جب حاضر ہو کر
			أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
			ایک دوسرے کو تم میں سے موت وقت وصیت کے

ختم رکوع دیکھو قرآن شریف

۲۱ اتلھا الاحزاب ۱
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ

اور قرابت والے بعضے اونکے نزدیک تر ہیں بعضوں سے بیچ کتاب

اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا

اللہ کے ایمان والوں سے اور ہجرت کرنے والوں سے مگر یہ کہ کرو

إِلَىٰ أَوْلِيَّائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

طرف دوستوں اپنے کے احسان سے یہ ہے بیچ کتاب کے لکھا ہوا

۲۲ تم الفجر ۱
وَتَأْكُلُونَ الرِّثَاءَ أَكْلًا مَلًّا

اور کھا پتے ہو تم میراث کو کھانا پے در پے

احکام منع اکل مال یتیم و
یتیموں کی اصلاح

۲۳ سبأ سورۃ رکوع
۲۴ سبأ البقر
وَلْيَسْأَلُواكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ أَصْلَحْ لَهُمْ خَيْرٌ

اور سوال کرتے ہیں تمہ سے یتیموں سے کہہ سنو انہا واسطے انکے بہتر ہے

وَأَنْ تَخْطُوا لَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ

اور اگر ممالو ان کو تم پس بہائی ہیں تمہارے اور اللہ جانتا ہے مفسد کو

مِنَ الْمَصْلُوحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَمَرْنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

سنوارنے والے سے اور اگر چاہتا اللہ ہبستہ بہت دیتا تمکو تحقیق اللہ غالب ہے جاننے والا

<p>وَأَقْرَبَ لِيَتَمَّى مَوَالِهِمْ ۗ</p> <p>اور دو یتیموں کو مال اور بچے</p>	<p>النساء ۱</p>	<p>۲۲ لن تنال</p>
<p>قُلْ لِلَّهِ يَفِينِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَنْبَغِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ</p> <p>کہہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمکو بیچ اُسکے اور جو چیز کہ پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا ہے بیچ کرنا ہے</p>	<p>۱۹</p>	<p>والمحصنة =</p>
<p>فِي بَيْتِي لِلنِّسَاءِ الَّتِي آتَيْنِي</p> <p>بیچ حق یتیم عورتوں کے</p>		
<p>وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ</p> <p>اور مت نزدیک جاؤ مال یتیم کے مگر ساتھ اس طرح کے کہ وہ بات اچھی ہے یہاں تک کہ بیچنے والی</p>	<p>۱۹</p>	<p>ولو انما انعام</p>
<p>وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ</p> <p>اور مت نزدیک جاؤ مال یتیم کے مگر ساتھ اس طرح کے کہ وہ بات اچھی ہے یہاں تک کہ بیچنے والی</p>	<p>۲۷</p>	<p>سبحان الله بنی اسرائیل</p>
<p>لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ</p> <p>بلکہ تم حرمت نہیں کرتے یتیم کی</p>		<p>علم الفجر</p>
<p>فَمَا لِلْيَتِيمِ وَلَا تَقْهَرْ ۗ</p> <p>پس جو یتیم ہو پس مت قہر کر</p>	<p>۱</p>	<p>= الضحیٰ</p>
<p>أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَكَرْنَاكَ</p> <p>کیا دیکھا تو نے اس شخص کو کہ جھٹلاتا ہے دن بڑا کہو پس یہ وہ شخص ہے جو</p>	<p>۱</p>	<p>= الماعون</p>
<p>يَدْعُ الْيَتِيمَ</p> <p>دیکھ دیتا ہے یتیم کو</p>		



احکام و فائے عہود و عقود

سیارہ سورت رکوع	آیت
طالع الرسول العزیز ۸	بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ <small>نہ بلکہ جو کوئی پورا کرے عہد اپنے کو اور پرہیزگاری کرے پس تحقیق اللہ دوست کہتا ہے</small> الْمُتَّقِينَ ۝
الحجۃ مائتہ ۱	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ <small>ای لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو ساتہ عہدوں کے</small>
الأنعام ۹	وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ <small>اور ساتہ عہد اللہ کے وفا کرو یہ بات نصیحت کرتا ہے تمکو ساتہ اُسکے تو کہ تم نصیحت کرو</small>
المائدۃ الاعراف ۲۲	وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ <small>اور جب لیا پروردگار تیرے نے بیٹوں آدم کے سے پیٹھوں اُنکے سے اولاد انکی کو</small> وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُمْ بِرِيبِكُمْ قَالُوا <small>اور گواہ کیا انکو اور پر جانوں انکی کے کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا گواہ ہوں</small> بَلَىٰ أَشْهَدُ نَأْنُ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ <small>البتہ تو شہد شاہد ہوں ہم ایسا ہوں کہ کہو تم دن قیامت کے تحقیق ہتھے ہم اس سے</small> هَذَا غَفِيلِينَ ۚ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا <small>فائل یا کہہ سوال کے نہیں کہ شریک کیا تھا باپوں سگانے</small>

مِنْ قَبْلِ وَكَذَلِكَ مِنْ بَعْدِ هُمْ أَقْتَمُ لَكُمْ

پہلے اس سے اور تھے ہم اولاد بھیجے انکے سے کیا پس ہلاک کرتا ہے تمہیں

بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ○

ساتھ اور چیز کے کہ کیا جوڑوں نے

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُصُوا

۱۳

الغزل

سبھا

اور پورا کرو عہد اللہ کا جب عہد بانہ ہو تم اور مت توڑو

الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

قسموں کو بھیجے مضبوطی اونکی کے اور تحقیق کیا ہے تمہے اللہ کو اور پراپنے

كَيْفَ لَا إِيمَانٌ لِلَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا

غیاب میں تحقیق اللہ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہو تم اور مت جو

كَالْمُتَقَصِّصَاتِ غَزَلْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكَارَاتِ

مانند اُس عورت کے کہ توڑ ڈالا گاتی اپنی کو تہجھے قوت کے ریزہ ریزہ

تَخْتَدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا

پکڑتے ہو تم قسموں اپنے کو دخل دینے والے درمیان اپنے اس واسطے کہ جو

أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ طَائِفَاتٍ لَوْ كَرِهَ اللَّهُ

کوئی امت بڑھتی ہوئی دوسری جماعت سے سوائے کہ انہیں کہ ازمایش کرتا ہے

وَلِيَسْتَبِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

اور استہ بیان کریگا واسطے تمہارے دن قیامت کے جو کچھ کہ تھے تم نے جس اسکے خلاف

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○

اور پورا کرو عہد کو تحقیق عہد سے سوال کیا گیا

۳

بنی اسرائیل

سبحان اللہ

منع غسل بدون انشاء اللہ

آیت

سیارہ سورت رکوع

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط

سبحان اللہ کھف ۲

مگر یہ کہ اللہ چاہے

قسم اور اسکے کفارہ کے احکام

آیات

سیارہ سورت رکوع

وَأَنْتُمْ جَعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

سيفول البقر ۲۸

اور نہ کرو خدا کے نام کو بیمانہ اور سزا دہا سنے قسموں لینے کے اس بات سے کہ نبی کریم

وَتَصِلُوا بَيْنَ النَّاسِ ط

اور صلہ کرادو لوگوں میں

وَلَكِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ لَا إِيْمَانَ فَلَقَارِئَهُ

واذا سئل ما نكده ۱۲

اور لیکن پکڑتا ہے تم کو سارے اس چیز کے کہ گڑھ بانڈی تھے قسموں کے پس کفارہ اسکا

إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعُونَ ط

کہلا دینا دس فقروں کو درمیان سے اوسط کے کہ کہلاتے ہونگے

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفًا مِمَّا نَطَعُونَ ط

لوگوں لینے کو یا پہنانا اونکا یا آزاد کرنا ایک گون کا پس جو کوئی نہ

ذات اللہ اور دستوں کے ساتھ یا پیر کر سورت سے اور بارون سے

يَجِدُ قَصِيًّا مَثَلْتَهُ أَيُّ مِذَابٍ ذَاكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ

پادے پس روزے تین دن کے یہ ہے کفارہ مستون تمہاری کا

إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

جب قسم کہاؤ تم اور حفاظت کیا کرو تم مستون اپنے کی

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ

فَدَّ مَعَ اللَّهِ التَّحِيمِ ۱

تحقیق مقرر کر دیا اللہ نے واجبے تمہارے کہو تم مستون تمہاری کا اور اللہ دوست ہے

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

اور وہ ہے جاننے والا حکمت والا

احکام پورا کرنے ناپ اور تول کے

آیات

سیپارہ سورت رکوع

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

۱۹ الانعام

اور پورا کرو ناپ اور تول ساتھ انصاف کے

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَخْسُوا النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ

۱۵ الاعراف

پس پورا کرو ناپ اور تول اور مت کم دو لوگوں کو چیزیں انکی

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرْسِكُمْ

۸ ہود

اور مت کم کرو میزان کو اور تول کو تحقیق میں دیکھتا ہوں تمکو

بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ حَذَابَ يَوْمٍ مَحْطُومٍ

بہتر بہانی کے اور تحقیق میں ڈرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب دن گھیرنے والے کے

وَمَا زِدِي	ہود	۸	وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا
اور ای قوم میری پورا کرو بیان اور تول کو ساتھ انصاف کے اور نہ			
يَحْسُوا النَّاسَ أَنَشَاءَ هُمْ			
کم دو لوگوں کو چیزیں انہی			
سَطْرًا	خاشعہ	۲	وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ زِنُوا بِالْقِسْطِ
اور پورا کرو بیان کو جب بیان کو اور تولو ساتھ ترازو			
الْمُسْتَقِيمِ			
سید ہی کے			
قَالَ الَّذِينَ	الشعرا	۹	أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
اور پورا کرو بیان کو اور مت ہو نقصان دینے والوں سے			
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَحْسُوا			
اور تولو ساتھ ترازو اور مت کم دو لوگوں کو			
النَّاسَ أَنَشَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ			
چیزیں انہی اور مت پروپیچ زمین کے فساد کرتے ہو			
قَالَ النَّبِيُّ	الرجز	۱	إِلَّا تَطْعَمُوا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ
تو کہ زیادتی کرو تم بیچ ترازو کے اور قائم کرو یعنی سید یا کرو تولو ساتھ انصاف			
وَلَا تَحْسِرُوا الْمِيزَانَ			
اور مت کم کرو تول کو			
عَمْرٍ	المطففين	۱	وَيَلِ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ
ماتے ہے ماسک کم کر دینے والوں کے وہ جب ناپ یوں اور لوگوں کے			

يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَانًا خَيْرًا مِنْ كَالِهِمْ

پورا لیوین اور جب ماپ دیوین اونکو یا تول دین اونکو کم دیوین

احکام عدل و انصاف

آیات

سیارہ سورت رکوع

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

والمحصنة النساء ۸

اور جب حکم کرو تم در میان لوگوں کے یہ کہ حکم کرو ساتھ انصاف کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنَّا قَوْمًا مِثْلَ الْقِسْطِ

۲۰ = =

ای لوگو جو ایمان لائے ہو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے ساتھ انصاف کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمًا مِثْلَ اللَّهِ سَمْدًا

۲ لا یحیی الله ما دت

ای لوگو جو ایمان لائے ہو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے واسطے اللہ شاہد

بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُ قَوْمٍ عَلَىٰ آخَرٍ

ساتھ انصاف کے اور باعث ہو نہ کہو دشمنی کسی قوم کی اور پر اسباب کے کہ نہ

تَعْدِلُوا أَوْ أَعْدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

عدل کرو عدلی کرو کہو بہت نزدیک ہے واسطے پر ہیز گاری کے

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

۶ = =

اور اگر حکم کرے تو تو پس حکم کر در میان انکے ساتھ انصاف کے تحقیق

اللَّهُ حَيُّ الْقَسِطِ

اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو

وَلَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُ مَا كُنَّا لَأَقْرَبَ	۱۹	العالم	ولواتنا
اور جب بات کہو پس انصاف کرو اور اگر چہ ہو صاحب قرابت			
قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ قَدْ	۳	الاعراف	
کہہ حکم کرتا ہے پروردگار میرا ساتھ انصاف کے			
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ	۱۳	المحل	رہا
تحقیق اللہ حکم کرتا ہے ساتھ عدل اور احسان کے			
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ	۲	البقرہ	البتیرہ الثور
اور حکم کیا گیا ہوں کہ عدل کرو میں درمیان تمہارے			
اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ	=	=	=
اللہ وہ شخص ہے جس نے کتاب کو ساتھ حق کے اور ترازو کے			
منع ظلم و قوم ظالم کی نسبت حکام			
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ	۵	سورۃ	سیارہ
اور جو کوئی کرے ممنوع کام توہی کی راہ سے اور عدو کے تجاوز کر کے اور ظلم ستم کی راہ سے			
نَصِيْبِهِ نَارًا			
کہ ڈھکیلا جاوے گا جیسا کہ میں			
وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ	۷	طہ	کلیلاً طمانہ
اور جو کوئی نہ حکم کرے ساتھ اور پھرنے کے کہ تمہاری ہے اللہ پس یہ لوگ وہی ہیں ظالم			
فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	۸	الغافر	واذا سمعوا الغافر
تو نہ بیٹھو بعد نصیحت کے بے انصاف قوم کے ساتھ			

وَقَالَ لَنْبَرُ الطَّغْوَانِ ۳	۳	وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ اور تیار رکھا ہے جسے ظالموں کے عذاب درد دینے والا
=	النمل ۱	إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حَسَبًا بَعْدَ سَوْءِ فِتْنٍ مگر جو کوئی ظلم کرے پھر بدل ڈالے نیکی سے بچے برائی کے پس تحقیق میں عَفْوًا رَحِيمًا ۝ بخشنے والا مہربان ہوں
أَمْ خُلِيَ الْقَصِيرُ ۴	۴	فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ پس دیکھہ کیونکر ہوا آخر کام ظالموں کا اور کیا ہے انکو أَيُّهَا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُبْصَرُونَ ۝ یہ تو کہ بلائے تھے طرف آگ کے اور دن قیامت کے نہ مرد دیے جاؤ گی وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پیچھے لائے ہم انکو سب اس دنیا کے لعنت اور دن قیامت کے هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝ وہ برائی کیے کیوں سے ہیں
=	=	وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ اور کون شخص ہے بہت گمراہ اس سے کہ پیروی کرتا ہے خواہش اپنی کی بغیر ہدایت کے مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ خدا کی طرف سے تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالموں کو
فَمَنْ ظَلَمَ الْمُحْسِنِينَ ۵	۵	فَالظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَرَأْسُفِيْعٍ يُطَاعُ ہمیں واسطے ظالموں کے دوست اور نہ شفاعت کرنے والا کہ کہا اسکا نام باد

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ

جس دن کہ نہ نفع دیگا ظالموں کو عذر انکا اور واسطے انکے لعنت ہے

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

اور واسطے اونکے برائی ہے گہر کی

إِنَّهُ لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ

البيور الشور ۴

تحقیق وہ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ

سوائے اسکے نہیں کہ راہ اوپر ان لوگوں کے ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے ہیں

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

بیچ زمین کے ناحق یہ لوگ واسطے اونکے ہے عذاب دردناک

الآن الظالمين في عذابٍ مُّقِيمٍ

خبردار ہو تحقیق ظالم بیچ عذاب ہمیش رہنے والے کے ہیں

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

تبارک اللہ ۲

اور ظالم تیار کیا ہے واسطے انکے عذاب درد دینے والا

مَنْعَ تَفَرُّقٍ وَأَمْرٍ وَعَوْتٍ إِلَىٰ آخِرٍ وَأَشْرُ وَأَمْرٍ مَعْرُوفٍ وَنَهَىٰ مِنْكَ

سپاڑہ سورت رکوع

آیات

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

لینا الظالمین ۱۱

اور چاہے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت کہ بلا دین طرف بہلائی اور حکم کریں

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُم

ساتھ اچھی چیز سے اور منع کریں نا عقول سے اور یہ لوگ وہی ہیں

<p>الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا و</p>	
<p>چٹکانا پانے والے اور مت ہونا نہ ان لوگوں کے کہ متفرق ہوئے اور اختلفوا من بعد ما جاءهم البیت</p>	
<p>اور یہ لوگ واسطے ان کے ہے عذاب بڑا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ</p>	
<p>اور مصالحت کرانے سے بچ کر کام کے وَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ</p>	<p>۱۷</p>
<p>اور اسپین نہ جھگڑو پہر نامرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہیگی تمہاری باؤ وَلَا تَنَازَعُوا أَعْقَابَهُمْ وَتَدْتَبِرْ كَدُّكُمْ</p>	<p>۶</p>
<p>اور کام اونکا مشورت سے درمیان ان کے وَأَمْرٌ كَثِيرٌ بَيْنَهُمْ</p>	<p>۲</p>
<p>منع تغیر خلقت خدا</p>	
<p>کبھی نہیں جانور دن کے کان اور اونکو سکھلاؤ گا کہ بدترین صورت بنائی فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَسْمَعْنَ فَيُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ</p>	<p>۱۸</p>
<p>احکام نسبت بناوت وصلح وغیرہ</p>	
<p>اور اگر دو جماعت مسلمانوں میں سے وَأَنَّ صَافِيَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَأَصْلَابُهُمْ</p>	<p>۲۲</p>

بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِي

ان دونوں کے پس اگر سرکشی کرے ایک ان دونوں میں سے اوپر دوسرے

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ

پس لڑو ان سے جو سرکشی کرتے ہیں یہاں تک کہ پیراؤں طرف حکم خدا کے پیراؤں

فَأْتَتْ وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا

پیراؤں میں صلح کرو درمیان انکے ساتھ عدل کے اور انصاف کرو

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو

أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

سوا کے نہیں کہ مسلمان بھائی ہیں اصلاح کرو درمیان دو بھائیوں کے

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور ڈرو اللہ سے تو کہ تم رحم کیے جاؤ

احکام قصاص فی القتل وغيره

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

سپارہ سورت رکوع

۲۲

سَيَقُولُ الْبَصِيرُ

ای لوگو جو ایمان لائے ہو لکھا گیا اور تمہارے برابر کرنا

فِي الْقَتْلِ وَالْكَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ

بہیم مارے گیوں کے آزاد بدلے آزاد کے اور غلام بدلے غلام کے اور

الْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَمِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

اور عورت بدلے عورت کے پس جو کوئی سزا کیا جاوے واسطے اسے عذاب بھائی اس کو

فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

پس پیچھے لکھا ہے ساتھ ہی طرف کے اور ادا کرنا طرف اچھے ساتھ نیکی کے

ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِ

آسانی ہے پر درد گار تمہاری کی طرف سے اور رحمت پس جتنی زیادتی کی

بَعْدَ ذَٰلِكَ فَإِنَّ عَذَابَ الْيَمْرُوكِ فِي الْقِصَاصِ

پچھے اچھے پس واسطے اچھے سے عذاب درد دینے والا اور واسطے تمہارے پیچھے برابر کی

جَبُوهٖ يَأْوِي إِلَىٰ الْأَبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

زندگی ہے اسی مثل والو نوک تم بچو

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاؤًا مَّوَدًّا

اور نہیں لائق واسطے کسی مسلمان کے کہ مار ڈالے مسلمان کو مگر ان جان پیچھے اور جو کئی

قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاؤًا فَكَيْفَ رَقِبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَوَدِيَّةً

مار ڈالے مسلمان کو انجانی سے پس آزاد کرنا ہے ایک گروں مسلمان کا اور خون بہا

مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانُوا مِن قَوْمٍ

سوچنے ہوئے طرف لوگوں اُسکے کے مگر یہ کہ خیرات کریں پس اگر ہووے اُس قوم سے

عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَيْفَ رَقِبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ

کہ دشمن ہیں واسطے تمہارے اور وہ ہے مسلمان پس آزاد کرنا ہے ایک گروں مسلمان کا اور اگر ہووے

مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ

اُس قوم سے کہ درمیان تمہارے اور درمیان اُنکے عہد ہے پس جو بہا رہنے ہوئے

إِلَىٰ أَهْلِهَا وَكَفِيرٌ رَّقِبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ

طرف لوگوں اُنکے کے اور آزاد کرنا ایک گروں مسلمان کا پس جو کئی بناوے

والمحصد النساء ۱۳

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ

پس روزے دو پہینے کے ہن بے درپے توبہ خدا کی طرف سے

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا

اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا اور جو کوئی مار ڈالے مسلمان کو

مَنْعَمَلًا فِئْرَأْوَهُ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

جانکر جس سزا دوسکی دوزخ ہے ہمیشہ رہنے والا ایسے اسکے اور غضب ہوا

اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝

اللہ اور آپ کے اور لعنت کی اُسکو اور تیار رکھا واسطے اسے عذاب بڑا

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

سوا اسکے نہیں کہ بدلا ان لوگوں کا کہ لڑتے ہن اللہ سے اور رسول اُسکے سے اور

يُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَاتَلُوا

دوڑنے ہن بیچ زمین کے فساد کو یہ کہ قتل کیے جاویں یا سولی دیے جاویں

أَوْ تُقْتَلُوا أَوْ يُلْقُوا أَيْدِيَهُمْ

یا کاٹے جاویں ہاتھ اوسکے اور پاؤں اُسکے مخالف طرف سے

أَوْ يُقَاتَلُوا فِي الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِيفَةُ

کہوے جاویں زمین سے یعنی قید رکھی جاویں یہ واسطے اُسکے رسوائی ہے بیچ دنیا کے

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ

اور واسطے اُسکے ہم آخرت کے عذاب ہے بڑا مگر جن لوگوں نے

تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

توبہ کی پہلے اس سے کہ قدرت پاو تم اور اُسکے پس جانو

لا يجر الله

المائد

۵

عَفْوًا رَحِيمًا ۝

کہ بخشنے والا مہربان ہے

وَكُنَّا عَلَيْكُمْ فِيهَا أَنْ نَفْسًا بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ

اور کھا رہے تھے اور آپسکے پیچھے ایک کے ایک جان بدلے جان کے اور آنکھ

بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ

بدلے آنکھ کے اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے

وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجِرِّ وَالْجِرِّ قِصَاصٌ مِمَّنْ نَقَدَ

اور دانت بدلے دانت کے اور زخموں کا بدلہ ہے پس جو کوئی خیرات کر ڈالے

بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ

ساتھ اُسکے پس وہ کفارہ ہے واسطے اُسکے اور جو کوئی نہ حکم کرے ساتھ اُسکے کہ اتنی ہی ہے اللہ نے

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

پس یہ لوگ وہی ہیں ظالم

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ نَزَقًا

اور مت مار ڈالو اولاد اپنی کو ڈر افلاس کے سے ہم روزی دیتی ہیں تم کو

وَأَيَّاهُمْ

اور اُنکو

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اور مت مار ڈالو اوس جی کو کہ حرام کیا ہے اللہ نے مگر ساتھ حق کے

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَسْبٍ أَمْوَالِكُمْ نَزَقًا

اور مت مار ڈالو اولاد اپنی کو ڈر افلاس کے سے ہم

لَا يَجِبُ الْمَاءُ

نَنَا انعام ۱۹

نَنَا نبي اسرئیل ۴

رَزَقَهُمْ وَآيَاكُمْ أَنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ كَانَتْ خَطَايَا كَثِيرًا

رزق دیتے ہیں انکو اور تمکو سختی مار ڈالنا انکا خطا ہے بڑی

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ لِالْبَاطِلِ وَالْحَقِّ وَمَنْ

اور مت مار ڈالو اس جان کو جو حرام کیا ہے اسنے مکر ساتھ حق کے اور جو کوئی

قَتَلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلا

مارا جاوے منطابم پس تحقیق کیا ہے مننے واسطے والی اسکے کے غلبہ پس چاہئے کہ

يَسْرِفَ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

زیادتی کرے بیج قتل کے تحقیق وہ ہے یعنی وارث مقتول کا مدد باگیا

جزا سے سرف

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ جَزَاءً

اور جو چوٹی پس کاٹو ہاتھ ان دونوں کے سزا

بِمَا كَسَبَتْ إِنْ كَانَا مِنْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

بے اسکے جو کمایا انہوں نے عبرت خدا کی طرف سے اور اللہ غالب مکت والا ہے

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ

پس جو کوئی توبہ کرے بیچے ظلم اپنے کے اور نیکی کرے پس بخشنے اللہ

يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

پہرا آئے اور اسکے بخشنے اللہ بخشنے والا مہربان ہے

مد زنا و تعزیر فحش و غیرہ

تینا

النساء ۳

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكَ فَاسْتَشِيرُوا

اور وہ عورتیں کہ آتی ہیں بیچاری کو عورتوں ہماری سے پس گواہ مانگو

عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ تَشَاءُوا فَاذْهَبُوا

اوپر اوشکے چار گواہ اپنے میں سے پس اگر گواہی دیدیں پس بندر کہو انکو

فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ الْمَوْتِ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ

بیچ گھروں کے یہاں تک کہ اٹھائے انکو موت یا کرے اللہ

لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِّنْكُمْ فَادْعُوهُمْ

وا سے اوشکے گھروں اور جو مرد آئیں اُس بیچاری کو تم میں سے پس ایذا دلاؤ انکو

تَابًا وَأَصْلَحْهُمُ فَإِذَا عَزَمْتَ الْأُمَمُ

پس اگر توبہ کریں اور نیکی برآئیں پس مہذب پیرا اُنہیں تحقیق اللہ سے

كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا ۝

پہرا نیوالا مہربان

إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكَ

مگر یہ کہ لاوین بیچاری ظاہر

فَإِنْ أَتَيْتَ الْفَاحِشَةَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى

پس اگر کریں بیچاری پس اوپر اوشکے سے آدھا ایسے کا کہ اوپر

الْمَحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

بیبیوں کے سب سے عذاب سے

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مِنْ نِسَائِكُمْ

اور مت نزدیک جاؤ بیچاریوں کے جو کچھ کہ ظاہر ہے انہیں اور جو کچھ

ولعنا

الانعام 19

19

وَلَا تَقْرَبُوا السَّرَائِرَ إِنَّهَا كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

اور مت نزدیک جاؤ زنا کے تحقیق وہ ہے بھائی اور بڑی ہے راہ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْئِدَتِهِمْ أَحْقَابٌ لَّا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ إِذْ كَانُوا أَكْفَابًا

اور وہ جو واسطے شرمگاہ اپنی کے محافظت کرنے والے ہیں مگر اوپر

أَزْوَاجِهِمْ وَأَوْمَاتِهِمْ وَإِنَّمَا كَانُوا أَكْفَابًا مَّنْجُورِينَ

بیبیوں اپنی کے یا جگے مالک ہوتے ہیں دانہ ہاتھ اونکے پس تحقیق وہ نہیں

مَلُومِينَ فَمَنْ يَتَذَكَّرْ فَإِنَّهُ لَهُ مَرْجَاتٌ وَإِنَّمَا كَانُوا أَكْفَابًا مَّنْجُورِينَ

ملامت کے گئے پس جو کوئی چاہے سوا ایک کے پس یہ لوگ وہی ہیں حد سے گڑھا بوالہ

الزَّانِيَةِ وَالسَّارِيَةِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

زنا کرنے والے اور زنا کرنا والا پس مارو ہر ایک کو آٹھون دھڑن میں سے

مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِم رِاقَةٌ فِي ذِي الْقُرْبَىٰ

تو ڈرے اور نہ بکڑے تمکو بیچ حق لنگھ کے مہربانی بیچ دین خدا کو

إِنْ كُنْتُمْ تَوَافِقُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

اگر ہو تم ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے اور

الْبَيْتِ عَدَدًا بِمَا طَافُوا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ

چاہئے کہ حاضر ہو عذاب کرنے پر ان دونوں میں سے ایک جماعت مسلمانوں میں سے

وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ

اور محافظت کریں شرمگاہ اپنی کی

وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ

اور محافظت کریں شرمگاہ اپنے کی

قد افلح النور ۴	وَلَا تَنْكُرْهُ هُوَ افْتِنَاكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا مُحْصَنًا		
	اور مت جبر کو لوندیوں اپنی کو اور بدکاری کے اگر چاہیں بھی رہنا		
	لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ		
	تو کہ طلب کرو تم اسباب زندگی دنیا کا اور جو کوئی جبر کرے گا تو		
	فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ عَفُورٌ رَحِيمٌ		
	پس حقیقی اللہ پیچھے جبر کرنے کے اون پر بخشنے والا مہربان ہے		
شع لواطت یعنی اغلام			
سپارہ	سورت	رکوع	آیات
ولواتنا	الاعراف	۱۰	وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
			اور یہی لوط کو جو قوت کہا اُس نے واسطے قوم اپنی کے کیا کرتے ہو تم بیچالی کو
			مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ
			نہیں کیا پہلے تم سے اسکو کسی نے عالموں میں سے تحقیق تم
			لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
			آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے سوائے عورتوں کے
			بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ وَكَانَ جَوَابَ قَوْمِ
			بلکہ تم قوم ہو جس سے بھلانے والے اور نہ تھا جواب قوم اسکی کا
			الآن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرَبَاتِكُمْ لَهُمْ
			مگر یہ کہ کہتے تھے نکال دو انکو بستی اپنی سے تحقیق وہی
			أَنْسٌ يَتَّبِعُ هَارُونَ وَآجِبِينَ وَأَهْلَهُ الْأَمْرَاتِ
			ایک لوگ ہیں بہت پاک کہتے ہیں انکو پس نجات دی ہے انکو اور لوگوں انکے کو مگر عورت

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

کہہ ہی تھے رو جانے والوں سے اور برسا یا تھنے اور انکے مینے تھرونگا

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝

پس دیکھ کیونکر ہوا آخر کام گنہگاروں کا

أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ

۱۹ وقال الذبیر الشعراء ۹

کیا آتے ہو تم مردوں کے پاس عالموں میں سے اور چھوڑ دیتے ہو تم

مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ لِيَتَمَّ فِئْتِمُومًا

جو کچھ پیدا کیا ہے واسطے تمہارے رب تمہارے لئے جوڑوؤں تمہاری کے بلکہ تم ایک قوم ہو

عَادُونَ ۝

عد سے نکھانے والے

وَلَوْ طَآئِدٌ لَقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ

۴ الفل =

اور لو ط کو جو قوت کہا اُس نے واسطے قوم اپنی کے کیا کرتے ہو تم بیجا

وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝ إِنِّي لَأَتَانُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

اور تم دیکھتے ہو کیا آتے ہو تم مردوں کے پاس شہوت سے

مِنْ دُونَ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِخُونَ ۝

سوائے عورتوں کے بلکہ تم ایک قوم ہو کہ جہل کرتے ہو


وَلَوْ طَآئِدٌ لَقَوْمِهِ إِنِّي لَأَتَانُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

۳ آمن خلق العنكبوت

اور یہ جانتے لو ط کو جو قوت کہا اُس نے واسطے قوم اپنی کے جیتن تم کہا کرتے ہو تم بیجا

مَا سَبَقَ كُزَيْبًا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

پہلے کیلے کیا تھے اوسکو کسی نے عالموں میں سے کیا تم



أَتَاكُمْ تَأْتِي الرِّجَالُ نَقَطُوا السَّبِيلَ وَأَتَاكُمْ فِي دَابِلِ الْمَلِكِ

کیا آئے ہو تم پر مردوں کے پاس اور کاٹتے ہو تم راہ اور آئے ہو تم حج مجلس اپنی مسجد

شع بنسب و ذمت بنسب

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ مِنْ

اور نہ گمان کریں وہ لوگ کہ بخیلی کرتے ہیں ساتھ اور بچنے کے کہ دیا ہے انکو

فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ

فضل اپنے سے وہ بہتر ہے واسطے انکے بلکہ وہ برا ہے واسطے انکے البتہ طوق بہنا

مَا أَجْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وہ چیز کہ بخیلی کی ساتھ اسکے دن قیامت کے

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ

وہ لوگ کہ بخیلی کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو ساتھ بخیلی کے اور

يَكْمُونَ مَا أَنعَمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اور چھپاتے ہیں وہ چیز کہ دی ہے انکو اللہ نے فضل اپنے سے

فَلَمَّا أَنعَمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَبْخُلُوا بِهِ وَهُمْ فِي

پس جب دیا انکو فضل اپنے سے بخیلی کی ساتھ اسکے اور پھر گئے اور وہ مولدہ بچنے والی ہیں

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

اور مت کر ہاتھ اپنے کو بند یا ہوا طرف گردن اپنی کے

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ

حقیق قارون تھا قوم موسیٰ کے سے

۲۴ الح	محمد ۲	۲	<p>فِيكُمْ مَنْ يَخْلُ وَكُنْ يَخْلُ فَإِنَّا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهِ ط</p> <p>پس بعض تم میں سے وہ شخص ہے کہ بخیلی کرتا ہے اور جو کوئی بخیلی کرے پس سو اس کے نہیں کہ بخیلی کرے</p>
۲۴ قال فما	الحديد ۳	۳	<p>وَاللَّهُ لَرَبِّ كُلِّ مَخْتَالٍ فَخُورًا ۝ الَّذِينَ يَخْلُونَ</p> <p>اور اللہ بے رفاہ ہے اور تم محتاج ہو</p>
۲۸ قل مع الله	الحشر ۱۰	۱۰	<p>وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ ط</p> <p>اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو سلاہ بخل کے</p>
۳۰ م	اليل ۱	۱	<p>وَمَنْ يُوَقِّ شُرَكَائِهِ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰكِرُونَ</p> <p>اور جو کوئی بچایا جاوے بخیلی جان اپنی کی سے پس یہ لوگ وہی ہیں ظالم بانے والے</p>
۳۰ م	اليل ۱	۱	<p>وَأَمَّا مَنْ يَخْلُ وَاسْتَعْدَّ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنِ ط</p> <p>اور اسے پر جس نے بخیلی کی اور بے پروائی کی اور جھٹلایا بات اچھی کر</p>
=	المنزة ۱	۱	<p>فَسَنِّيْرَةُ الْعُسْرِ ۝</p> <p>پس اللہ آسان کرے تم کو واسطے سختی کے</p>
=	المنزة ۱	۱	<p>وَلِكُلِّ هَمَزَةٍ لِمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ</p> <p>وہ ہے واسطے ہر عیب کرنے والے عیب کرنے والے کے جس نے اکٹھا کیا مال اور کیا کیا اور</p>
=	المنزة ۱	۱	<p>يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ط</p> <p>جاتا ہے یہ کہ مال اسکا ہمیش رہے گا اور سو مرکز نہیں ہون اسبتہ والا جاوے گا یہ حطیے</p>
=	المنزة ۱	۱	<p>وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ الَّتِي تَطْلِعُ</p> <p>اور کیا جانے تو کیا ہے حطیے آگ ہے اللہ کی سگائی ہوئی وہ جو چڑھاتی ہے</p>

عَلَىٰ أَرْكَانٍ فَعِدَّةٌ لِّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَدَّةٌ وَإِنَّ عِدَّةَ الْعُقُودِ لَآتِيَةٌ

اوپر دون کئے تھیں وہ اوپر انکے دروازہ بند کیے ہوئے ہیں ستونوں کہنے ہوئے کے

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ○

اور منع کرتی ہیں برتنے کی چیز کو

منع حد

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

کیا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اوپر اچھیز کے کہ دیا ہے انکو اللہ نے فضل سے

منع کبر و مشابہت متکبر

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ○

تھیں اللہ دوست نہیں رکھتا اس شخص کو کہ ہے تکبر کرنے والا

وَإِنَّا لَنَرَاهُمْ فِي صُورِهِمْ حَمِقِينَ مُّعْتَدِلِينَ ○

اور جن لوگوں نے انکار کیا اور تکبر کیا پس عذاب کریگا انکو عذاب دینے والا

فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ

پس نہیں لائق واسطے ترسے یہ کہ تکبر کیسے تو

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

اور جن لوگوں نے چھلایا نشانیاں ہماری تو اور تکبر کیا اوسنے یہ لوگ رہنے والی ہیں آگ کے

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ○

تھیں وہ نہیں دوست رکھتا تکبر کرنے والوں کو

فَادْخُلُوا الْبُيُوتَ الَّتِي بَنَيْتُمْ لَكُمْ فِي الْمَدِينَةِ وَلَا تُخْرَجُوا مِنْهَا فَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

پس داخل ہو دروازوں دوزخ کے میں ہمیں رہنے والے ہجرت کے میں اپنے گھر

مَنْ مَتَّوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ○

جگہ تکبر کرنے والوں کی

وَأَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَسْمُرَ

اور ست چل ہجرت زمین کے اگر تاتا ہوا تحقیق تو ہرگز نہ چھارنگا

الْأَرْضُ وَكَانَ بَيْنَهُمَا جِبَالٌ كُورًا ○

زمین کو اور نہ پہونچے گا پہاڑوں کے بناؤ میں

ثَانِي عَطْفًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

موڑنے والا شانے اپنے کو تو گمراہ کرے راہ خدا کی سے

وَلَا تُصْعِقُهُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ

اور ست موڑ کا نون اپنے لوگوں سے اور ست چل ہجرت زمین کے

مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ○

اترا تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا ہر تکبر کرنے والی کو

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

اور ہجرت کی راہ لے ہجرت جاں اپنی سے اور نرم کر آواز اپنی

إِنَّ أَنْدَرَأَصْوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ○

تحقیق بہت ناپسندیدہ تر آواز اللہ آواز گدھے کی ہے

كَذَلِكَ يُطِيعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ ○

اسی طرح ہر رکھتا ہے اللہ اور دل ہر تکبر کرنے والے برکت کے

سجۃ ۱۵
بنی اسرائیل

۴

سجۃ ۱۶
اقترب للناس

۱

سجۃ ۱۷
اتوا اوجی لقن

۲

سجۃ ۱۸
فذل الظلم المؤمن

۴

خود پسندی نکرنے کا حکم

سورہ	آیات	رکوع	سورہ	سورہ
النجم	۲	۲	النجم	۲
<p>هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنفَسُكُمْ</p> <p>وہ خوب جانتا ہے تمکو جن وقت کہ پیدا کیا تھا تمکو زمین سے اور جن وقت کہ تم</p> <p>أَجْنَفِي بِطُونٍ أَمْهَتِكُمْ فَلَا تَزْلُوا أَنفُسَكُمْ</p> <p>بچتے تھے بیچ بیٹوں ماؤں اپنے کے پس مت پاگ کہو تم جانوں اپنوں کو</p> <p>هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ○</p> <p>وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو کہ پرہیزگاری کرتا ہے</p>				

منہ گمانی و عیب جہلی و جاسوسی و غیبت و تم دروغ سخن چینی و سخن

سورہ	آیات	رکوع	سورہ	سورہ
النساء	۲۱	۲۱	النساء	۲۱
<p>لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْبَغْيَ وَالسُّوْعِيَّةَ مِنَ الْقَوْلِ لَا يَكْظُمُ</p> <p>دوست نہیں رکھتا اللہ آشکارا کرنا بڑی بات کو مگر آشکارا کرنا اسکا جس پر ظلم کیا</p> <p>لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ</p> <p>کیونکہ نہ جن وقت سنائے اُسکو گمان کیا مسلمانوں نے اور مسلمانوں نے</p> <p>بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مَّبِينٌ ○</p> <p>ساتھ اپنے اپنے کے اچھا اور کیوں نہ کہہا انہوں نے یہ طوفان ہے ظاہر</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ</p> <p>اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تمہارا کہنے کوئی قوم کسی قوم سے شایہ</p> <p>أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَا لِنِسَاءٍ مِّن نِّسَائِكُمْ</p> <p>وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ بی بی بیان کسی بی بی سے</p>				

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِّنْكُمْ وَلَا تَنْمُرُوا أَنفُسَكُمْ

شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے اور مت عیب لگاؤ آپس اپنے کو

وَلَا تَنَابَرُوا بِلِقَابِ رَبِّسِ الْأَسْمَاءِ

اور مت بدنام کو ساتھ بڑے لقبوں کے برا نام سے بدکاری

بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ فَإِنَّهُمْ الظَّالِمُونَ

پس ایمان کے اور جس نے نہ توبہ کی پس یہ لوگ وہی ہیں ظالم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ

ای لوگو جو ایمان لائے ہو بچو بہت گمان سے

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ

تحقیق بعض گمان گناہ ہے اور مت جاسوسی کرو اور نہ غبت کریں

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ يَاجِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

بعض تمہارے بعض کے کیا دوست رکھتا ہے کوئی تم میں سے یہ کہہ دے گوشت

أَخِيهِ مِمَّا فَرَغَ مَوْتُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

بہائی اپنے مریکا پس ناخوش رکھو گے تم اوسکو اور ڈرو اللہ کے تحقیق اللہ بڑا سخت

وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَا فِي مَهِينٍ هَذَا مَشَاءُ بَيْنِهِمْ

اور نہ فرما برداری کہ ہر چھوٹے قسم کھانے والے کے عیب کرنا اور لوگوں کے چلنے والا سخن چینی

مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مَعْتَدٍ أَتَمُّ عِنْدَ بَعْدِ ذَلِكَ زَيْنٌ

برائے متاع کرنا لاجیر کا ظلم کرنا اور حد گذرنا اور برا گنہگار رہنا اور زینت جو ان میں سے

أَنْ كَانَ ذِمَّةً وَبَيْنَهُ

اس جہت سے مال اور اولاد والا

تَبَّكَ الْفَلَمُ ۱

منع کذب و افتراء و قول زور

سیارہ	سورت	رکوع	آیت
تک اور	ال عمران	۶	فَجَعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝
			پس کرین لعنت اللہ کی اور جوڑوں کے
۱۲	ہود	۲	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَّلِيْكَ
			اور کون ظلم ہے بہت ظالم اس شخص کے کہ باندہ یوسے اور اللہ کے جوڑے یہ لوگ
			يَعْرِضُوْنَ عَلٰى نٰٓيِمٍ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هُوَ لَا
			روپر دلائے جا رہے اور رب اپنے کے اور کہیں کے گواہ یہ لوگ وہی ہیں کہ جوڑے
			الَّذِيْنَ كَذَّبَ وَاَعْلٰى رَاٰمِ الْاَلْعَنَةُ لِلّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ
			بولتے ہیں اور برود کار اپنے خبردار ہو لعنت ہے اللہ کی اور ظالموں کے
۱۳	ال فصل	۱۳	اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبُ بِالَّذِيْنَ لَا يَوْمِيْنَ بٰٓيِنَا لِلّٰهِ
			سوا اسکے نہیں کہ باندہ بپتے ہیں جوڑے وہ لوگ کہ نہیں ایمان لاتے ہیں سارے شانوں کے
			وَاُوْلِيْكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝
			اور یہ لوگ وہی ہیں جوڑے
		۱۵	وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا نَصِفُ اَلْسِنَتَكُمُ الْكٰذِبَ ؕ
			اور مت کہو واسطے اور سب کے کہ بیان کرتی ہیں زبانیں تمہاری جوڑے
		۲	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
			اور مت چپکے میں اور سب کے کہ نہیں جھک سارے اسکے علم تحقیق کان اور آنکھ
			وَالْفُوْءَادَ كُلُّ اُوْلٰٓئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُوْلٍ ۝
			اور دل ہر ایک انہیں کا ہر ایک اس سے سوال کیا گیا

وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

اور بچتے رہو جو بولنے جو ہر کے سے

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيْطَانُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ

سے کیا تلاون میں تمکو اور پکے اترتے ہیں شیطان اترتے ہیں اوپر

كُلِّ فَاكٍ أَيْمٍ يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَآلِزَهُمْ كَذِبُونٌ ۝

ہر جو ہر با ذہن والے کہتا رہے کہتے ہیں شیطان کان اپنے اور اکثر انکے ہوتے ہیں

قِيلَ الْحَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝

بارے گئے انکل مارنے واسطے وہ جو بیچ غموت کے ہولے ہیں

فَلَا تَطِعِ الْمَكْذِبِينَ ۝

پس مت کہا مان جھٹلانے والوں کا

وقال الذين الشعراء ۱۹

جم الذاریت ۲۶

تبر الان القلم ۲۹

منع ہمت و بہتان

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِهِ بِهَا

اور جو کوئی کماوے کچھ خطا یا گناہ ا ہر ہمت لگاوے ساتھ اس کے بچنا

فَقَدْ اِخْتَلَبْنَا وَابْتَدَأْنَا وَإِنَّا لَمِيبْنَا ۝

پس تختن اٹھایا اسنے بہتان اور گناہ ظاہر

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ

اور جو لوگ کہ ہمت لگاتے ہیں پاک و ماہون کو پھر نہیں لاتے چار

شَهَادَاتٍ فَأُولَٰئِكَ هُم مَكْذِبُونَ جَلِدْهُم بِجِلْدَةٍ وَلَا يُقْبَلُ

شہادہ سے مارو اونکو اسٹی کوڑے اور مت قبول کرو انکی

سیارہ سورت رکوع

والمحصنات النساء ۱۶

قد افلح المؤمنون النور ۱۸

شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا

شہادت کہی اور یہ لوگ وہی ہیں فاسق

الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ

جنہوں نے توبہ کی پیچھے اسکے اور سنبھل گئے ہیں تحقیق اللہ

عَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

بختنے والا مہربان ہے اور جو لوگ کہ بہت لگاتے ہیں جو دون اپنی کو

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةٌ

اور نہیں ہیں واسطے انکے شاہد مگر جانیں ادنیٰ پس گواہی

أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

ایک کی چار بار گواہیاں ساتھ قسم اللہ کے تحقیق وہ شخص اللہ سے سچا ہے

وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ

اور پانچویں بار یہ کہ لعنت خدا کی ہے اور اسکے اگر ہو

الْكَاذِبِينَ وَيَذَرُهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ

جوڑوں سے اور دُخ کرنا ہے اُس سے عذاب کو یہ کہ گواہی دے

أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَ

چار گواہیاں ساتھ قسم اللہ کے تحقیق یہ اللہ سے سچا ہے اور

الْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ

پانچویں بار یہ کہ غضب خدا کا اور اسکے جو دے اگر ہو یہ شخص

الصَّادِقِينَ وَلَا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

سچوں سے اور اگر نہ ہوتا فضل خدا کا اور تمہارے اور رحمت اسکی اور یہ اللہ توبہ کرنے والا حکیم

۱۸	قد افلم	النور	۳	<p>ان الذين يرمون المحصنات الغفلات المؤمنات</p> <p>تحقیق وہ لوگ کہ بہت لگاتے ہیں پاک دامنوں کو بے خبر ایمان والیوں کو</p>
				<p>لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ</p> <p>کے لئے اور دُنیا کے اور آخرت کے اور واسطے اُسکے عذاب ہے بڑا</p>
	وہی وقت	الاحزاب	۷	<p>والذين يودون المؤمنین والمؤمنات بغیر</p> <p>اور وہ لوگ کہ اہذا دیتے ہیں مسلمانوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر</p>
				<p>مَا لَتَسُبُّوا فَمَا تَدْعُوا جَهَنَّمَ إِنَّمَا مَسِينَا</p> <p>اسکے کہ برا کیا انہوں نے پس تحقیق اُنہا یا انہوں نے جہنم اور گناہ ظاہر</p>

منع دشنام ہی ندرت کلمہ حبیبہ و فضیلت کلمہ طیبہ

سیارہ	سورت	رکوع	آیت
۷	الانعام	۱۳	<p>وَلَا تَسُبُّوا</p> <p>اور مت برا کہو</p>
۱۳	ابراہیم	۱۶	<p>الْمُتْرِكِيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَثِيرَةً</p> <p>تو نے نہ کہا کیسے بیان کی اللہ نے ایک مثال کہ کلمہ طیبہ مثل درخت</p>
			<p>طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي</p> <p>پاکیزہ کے کہ وہ درخت خرم ہے اور کوئی درخت جنت میں اُسکی جڑ مضبوط ہے اور اُسکی شاخیں</p>
			<p>أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَأْتِي زَيْتُهَا</p> <p>ایسا مہوہ ہر وقت اپنے رب کے ارادہ</p>
			<p>وَمِثْلُ كَلِمَةٍ فَجِيئَةٌ بِسَكْرِ تَقْبَلُهَا أَجْتِنْتُمْ</p> <p>اور مثال بات ناپاک کی مانند درخت ناپاک کے ہے کہ جسم پر دگلا ہے</p>

مَرْفُوقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

اوپر سے زمین کے نہیں واسطے اس کے قرار

الْبَيْهَ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۝

اوسکی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا اور کلام نیک اوسکو اٹھاتا ہے

احکام امتناع دوستی یہود و غیرہ کفار

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

آیات

رکوع

سورت

سپارہ

نزلت اول العن ۱۳

الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

نیکو نہیں مسلمان کافروں کو دوست سوا

فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَقُوْا مِنْهُمْ نِقٰةً ۝ وَيَجِدْكُمْ

مسلمانوں کے اور جو کوئی کرے پس نہیں اللہ سے

بچ کسی چیز کے مگر یہ کہ بچو تم اوسنے بچنے کو اور ڈرنا ہے تمکو

اللَّهُ نَفْسًا وَّالِيَّ اللَّهِ الْمَصِيْبُ ۝

اللہ ذات اپنے سے اور طرف اللہ کے پہنچا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰيْمَانَ مِنْ دُوْنِكُمْ

ای لوگو جو ایمان لائے ہو مت پکڑو دوست ولی سواے اپنے سے

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مُزِدُوْنَ الْمُنٰفِقِيْنَ

وہ لوگ جو پکڑتے ہیں کافروں کو دوست سواے مسلمانوں کے

اَيُّبَغُوْنَكَ عِنْدَ هُمُ الْعِرَّةِ فَاِنَّ الْعِرَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

اللہ اپنے ہن نزدیک امانکے عزت پس تحقیق عزت واسطے اللہ کے ہے تمام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ

۲۱ والمحصنات النساء

اے لوگو جو ایمان لائے مت پکڑو کافروں کو دوست

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا

سوائے مسلمانوں کے کیا چاہتے ہو تم یہ کہ کرو

لِللّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۝

دراستے اللہ کے اور اسے ظہیر ظاہر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَةَ

۸ لا یحب اللہ ما لہ

ای لوگو جو ایمان لائے مت پکڑو یہود کو اور نہ نصاریٰ کو

أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مِّنْ يُّوْهَبُ مِنْكُمْ

دوست بعضے اونکے دوست ہیں بعض کے اور جو کوئی دوست پکڑے اونکو

فَإِنَّ مِنْهُمْ

پس تحقیق وہ انہیں میں سے ہے

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْبَيْسَ

۱۱ = =

دیکھتا ہے تو بہت کو انہیں سے دوستی کرتے ہیں اون لوگوں کی کہ جو کافر ہیں اللہ برا ہے

مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَن يَسْخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

جو کچھ آگے بھیجا ہے راستے انکی جانوں انکے نے یہ کہ ناخوش ہوا اللہ اور انکے

وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خِلَافُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ

اور بیچ عذاب کے وہ ہمیش رہنے والے ہیں اور اگر جوتے ایمان والے

بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ تَلَايَسْتَكْبِرُونَ ۝

ساتھ اللہ اور نبی کے نہ تکبر کرتے

واعلموا	التوبة	۳	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ
			اسے لوگو جو ایمان لائے ہوتے پکڑو باپوں اپنے کو اور بھائیوں اپنے کو
			أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْهُ
			دوست اگر دوست رکھیں کفر اور ایمان کے اور جو کوئی دوست رکھے
			مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ تَا فَسِقِينَ
			تم میں سے پس یہ لوگ وہی ہیں ظالم
قد سمع الله	الجماعة	۳۸	لَا تَتَّخِذُوا مِمَّنْ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ إِخْوَانًا
			نہ پاویگا تو کسی قوم کو کہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے اور دنِ آخری کے دوستی کریں
			مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ كَانَ تَوَّابًا هُمُ
			اس شخص کے کہ مقابلہ کرتا ہے اللہ اور رسول اسکا اگرچہ ہوں باپ اپنے یا
			أَوْلِيَاءَهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ
			بے اپنے اپنے یا بھائی اپنے یا گنہگاروں
المتخفة	۱	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ	
			اسے لوگو جو ایمان لائے ہوتے پکڑو دشمن میرے کو اور دشمن اپنے کو
			أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا
			دوست کہ پیغام پہنچتے ہو تم طرف اپنے ساتھ سجت کے اور سختی دہ کا فر سے ہیں
			بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
			ساتھ اور سچ کے کہ آئی ہے تمہارے پاس حق سے
۲	۴	۴	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ
			اسے لوگو جو ایمان لائے ہوتے دوستی کرو اس قوم سے کہ غصہ ہوا اللہ

عَلَيْكُمْ قَدْ يَلْسِنُوا مِنْ لَاحِزَةٍ كَمَا يَلْسِنُ الْكُفَّارُ

اور پرانے تختیق نا امید ہوئے آخرت سے جیسے نا امید ہوئے کافر

مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

قبر والوں سے

جادو کی تاثیر کا ثبوت

سیارہ	سورت	رکوع	آیات
الشمس	البقرہ	۱۲	وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكِ سُلَيْمَانَ اور پیروی کرتے ہیں اور سحر کی کہڑ پڑھتے ہے شیطان بیچ وقت سلیمان کے
			وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرَ وَابْعَثُوا اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے لیکن شیطان نے کفر کیا تھا سکھلاتے ہے
			النَّاسِ السُّورَةِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكِ بَابِلَ لوگوں کو جادو اور پیروی کرتے ہے اور سحر کی کہ آٹاری گئی اور دو فرشتوں کے
			هَارُونَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ ہارون اور ماروت کے تین اور نہیں سکھلاتے وہ دونوں کیسے
			حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا كُنَّ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ بیان تک کہ کہتے ہیں سو اس کے نہیں کہ ہم آزمائش میں ہیں مت کافر ہو میں سیکھتے ہیں
			مِنْهُمَا مَا يَفْرِقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَفِجِهِ ان دونوں کے وہ چیز کہ جدا کر دالتے ہیں ساتھ اس کے درمیان مرد کے اور جو وہام کیسے
			وَمَا لَهُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذَنُ اللَّهُ اور وہ نہیں وہ ضرر پہنچانے والے ساتھ اس کے کیسے مگر ساتھ علم اللہ کے

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ

اور سیکھتے ہیں وہ چیز کہ ضرر دیتی ہے اور نہ نفع دیتی ہے اور نہ اور اللہ

عَلِمُوا مَنْ اشْتَرُوا مَالَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ

تحقیق جانتے ہیں جو کوئی مول لہوے اور نہ نہیں واسطے اسکے بیچ آخرت کے کچھ حصہ

وَلَيْشَ مَا اشْتَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ کہ بیچا ہے بدلے اسکے جانوں اپنی کو اگر موتے جانتے

وَلَا يُفْلِحُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ أَتَى

اور نہیں ظالم پاتا جادوگر جہاں آتا ہے

قالہ ۱۹
ظہ ۳

حکم عدم جواز شہین

وَمَا جَعَلْ دُعَاءَ كُفْرَانًا كَمَا جَعَلْنَا دُعَاءَ الْكُفْرَانِ

اور نہیں کیا ہے یا کون تمہارے کو بیٹے تمہارے یہ ہے بات کہنا تمہارا ساتھ مومنوں

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

اور اللہ کہتا ہے حق اور وہ دکھاتا ہے راہ

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

پکارو اور نہ نسبت کرکے باپوں اور نہ کے وہ بہت انصاف ہے لڑیک اللہ کے

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُولَئِكَ فِي الدِّينِ

ہیں اگر نہ جانتے ہیں ان کی کو پس یہاں تمہارے ہیں بیچ دین کے

وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ

لوہ جیلے تمہارے ہیں اور نہیں اور تمہارے گناہ بیچ اور پوز کے کہ خدا کو تم

بِهِ وَلَكِنْ مَا نَعُدُّتُمْ قُلُوبَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

ساتھ اوسکے ولیکن جو قصد کریں دل تمہارے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

مکاتیب کا حکم

سیارہ سورۃ رکوع

۱۸ قذافہ النور ۴

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور وہ لوگ کہ چاہتے ہیں کہت آزادی کی پچھو لیں ان لوگوں میں سے کہ مالک ہو ہیں

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ

پس لکھو تم انکو اگر جانو تم میں سے اچھے پہلائی اور انکو

مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

مال خدا کے سے جو دیا ہے تمکو

اجر سفارش نیک و بد

سیارہ سورۃ رکوع

۱۱ والمحصن النساء

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ

جو کوئی درخواست کرے درخواست اچھی ہوگا اس درخواست کرنے والے کو حصہ

مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ

تو اب میں سے اس درخواست کے اور جو کوئی درخواست کرے بری ہوگا واسطے اس سفارش کرنے والے کو

احکام و عطا و آداب مجالس

سیارہ سورۃ رکوع

۳ الذاریہ

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

اور یاد دلاؤ کہ پس یقین بصیحت فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو

فَذَكِّرْ	طور ۲	=
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا پس نصیحت کر	۲	قل سمع الله المجادہ
فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لِنَفْسِنَا اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو وقت کہا جاوے واسطے تمہارے کشادگی		
الشُّرُوفِ وَالشُّرُوفِ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مجلسوں کے پس کشادہ کرو کشادہ کرو گنا امد واسطے تمہارے اور جو وقت کہا جاوے		
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اچھے کھڑے ہو پس اچھے کھڑے ہو بلند کریگا امد اون لوگوں کو کہ ایمان لائی ہیں تم میں		
اور ان لوگوں کو کہ دیے گئے ہیں علم درجے		

بیعت کا حکم

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعَنَّكَ ایات	سورت رکوم ۲	سیارہ ۲۸ قل سمع الله الممتحنہ
عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا اوپر اس بات کے کہ نہ شریک لادین ساتھ اللہ کے کسی چیز کو اور نہ چوری کریں اور نہ		
يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا تَأْتِينَ بِمَهْتَبٍ زنا کریں اور نہ مار ڈالیں اولاد اپنی کو اور نہ لادین طوفان کہ		
يُفَارِقُنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ بانہ بیویں اوسکو در میان ہاتھ اپنے کے اور پاؤں اپنے کے اور نہ نافرمانی کریں تمہاری		

فِي مَعْرِفٍ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ

ہر کسی کو علم شرع کے پس بیعت قبول کرانے اور بخشش مانگ واسطے ان کے گناہوں کو بخشتا

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اللہ بخشنے والا مہربان ہے

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

سو دیکھو ان لوگوں کے لئے جو دیکھ سکتے ہیں

الحشر

۲۸
قد صبح الله

حکم سیر فی الارض

آیات

رکوع

سورت

سیارہ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ

تو کہہ ملک میں چرو اور دیکھو کیونکہ شروع کی ہے

الْحَقِّ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

پیدا کرے پھر اللہ آٹھادیکھا پھلا آٹھان

شیرا

آیات

رکوع

سورت

سیارہ

وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَكْهَمُ فِي

اور شاعران کی پیروی کرتے ہیں گمراہ سب کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ وہ بچ

كُلِّ وَادٍ يَمِيمُونَ وَأَكْهَمُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

ہر جگہ کے سرگردان ہوئے ہیں اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جیسا کہ نہیں کرتے

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرَ اللَّهُ

مگر وہ لوگ کہ ایمان لائے اور کام کیے اچھے اور یاد کیا اللہ کو

كَيْدًا وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسِعِلُوا

بہت اور بدلایا ہے اس سے کہ ظلم کے گئے تھے اور شتاب جانیں کے

الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلِيَّ مَنقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

وہ لوگ کہ ظلم کرتے ہیں کونسے پر نیکی بلکہ پھر جاوینگے

فضیلت علم و علما

وَمِنْ يُؤْتِي الْكَلِمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

اور جسے حکمت دی ہے تحقیق کہ دی اسے نیکی بہت

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ

پس پوچھو اہل کتاب سے یعنی ان کے عالموں سے

إِنَّمَا يُجِزِي اللَّهُ مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ ۝

اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اسکے بندوں میں سے جنکو بھجھے

وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۝

اور جنہیں دیا گیا علم درجے

علما یا مؤذن

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ

اور کون شخص ہے بہتر بات میں اس شخص سے کہ پکارتا ہے طرف اللہ کے اور عمل کرتا ہے

صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

اچھے اور کہتا ہے تحقیق میں مسلمانوں سے ہوں

اولیاء اللہ کی شناخت ساتھ ایمان تقویٰ اور ثبوت کرامات اولیاء اللہ

سیارہ	سورت	رکوع	آیات
یعتزلون	یونس	۷	۱

۱ لَآ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

جان تو کہ بیشک خدا کے دوست کچھ نہیں اور نہ کما کر اور شدا اور پوچھے سے اور نہ وہ

قال الذين	الفل	۳	۲
-----------	------	---	---

۲ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اِنَّا نُنزِّلُ الْغُرَابَ

بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا

بِهَ قَبْلِ اَنْ يُّرَدَّ اِلَيْكَ ظُرْفُكَ

وہ پہلے اس سے کہ پر اوسے طرف تیرے آنکہ

کرام کا تبین

سیارہ	سورت	رکوع	آیات
حمرق	۲	۲	۱

۱ اذيتلقت المتلقين عن الهمز وعن الشمال فعيدا

اور جوت کہ لے لیتے ہیں لینے والے ایک داہنی طرف سے اور ایک بائیں طرف سے

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اَلَّا دِيَه رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

نہیں بولتا کچھ بات مگر نزدیک اوس کے نگہبان ہیں تیار

عم	انفطرا	۱	۱
----	--------	---	---

۱ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كَرِيْمًا كَاتِبِيْنَ

اور تحقیق اوپر تمہارے نگہبان ہیں بزرگ لکھنے والے

سواری کے وقت پڑھو

سیارہ	سورت	رکوع	آیات
-------	------	------	------

الیہود الزخرف	۱	شَجِنَ الَّذِي سَكَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ ۝
		ایک سے وہ جسے مسخر کیا واسطے ہمارا اسکو اور نہ تھے ہم واسطے اُسکے طاقت پانوں کے
		وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝
		اور تحقیق ہم مخلوق رہنے کے التبتہ پر جاوین گے

باس

سپارہ	سورت	رکوع	آیات
دوانسنا	اعراف	۳	يَلْبَسِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا يُورِي
			اے بیٹو آدم کے تحقیق اُنرا پہنے اور تمہارے پہناوا کہ ڈھانکتا ہے
			سَوَاتِكُمْ وَإِنَّا لَمُنْقَلِبُونَ ۝
			شرمگاہ تمہاری کو اور پہناوا زینت کا اور پہناوا بچاؤ کا یہ بہتر ہے

چشمِ حشم کی تاثیر کا ثبوت

سپارہ	سورت	رکوع	آیات
تبرکات	ن	۲	وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
			اور تحقیق نزدیک ہیں وہ لوگ کہ کافر ہوئے التبتہ بچلا دین تجھکو ساتھ نظروں لینے کے
			مَا تَسْمَعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَكُنُوزٌ ۝
			جب سنتے ہیں ذکر اور کہتے ہیں کہ تحقیق یہ التبتہ دیوانا ہے
			وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝
			اور نہیں یہ مگر نصیحت واسطے عالموں کے

مخوست ایام کا ثبوت

سپارہ	سورت	رکوع	آیات

۲۷	فنا ظلم	۲	فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ خَسَنٍ
----	---------	---	--

پس بھیجا ہمیں اور اونکے باد تند کو بیچ دنوں خس کے

۲۸	فنا ظلم	۱۰	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ خَسَنٍ
----	---------	----	--

تختیق بھیجی ہمیں اور اونکی باد تند بیچ دنوں خس کے کہ ہمیں عذاب کی عسلی

سختی کے بعد آسانی

آیات

سپارہ	سورت	رکوع	سَيَجْعَلُ اللَّهُ لِعَدَاوَتِكُمْ لَيْسًا
-------	------	------	--

شتم ہے کریگا اللہ پیچھے سختی کے آسانی

۳۰	فنا ظلم	۱	فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
----	---------	---	--------------------------------

پس تختیق ساتھ سختی کے آسانی ہے تختیق ساتھ سختی کے آسانی ہے

احکام نسبت مرتدین کے

آیات

سپارہ	سورت	رکوع	وَمَنْ يُرِدْ إِدْمَانًا يَأْتِكُمْ مِمَّا كَفَرَ فِي
-------	------	------	---

اور جو کوئی پر جاوے گا تم میں سے دین اپنے سے پس مر جاوے اور وہ کافر

سپارہ	سورت	رکوع	فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
-------	------	------	--

پس یہ لوگ کہوے گئے عمل اونکے بیچ دنیا کے اور آخرت کے

سپارہ	سورت	رکوع	وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
-------	------	------	---

اور یہ لوگ ہیں رہنے والے آگ کے وہ بیچ انکے ہمیش رہینگے

سپارہ	سورت	رکوع	كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا
-------	------	------	--

کیونکر ہدایت کرے اللہ اس قوم کو کہ کافر ہوئے بعد ایمان اپنے کے اور گواہی دی

أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ

یکہ رسول چہ ہے اور آئین اور حکم پاس دہلین اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ

ہنہن ہایت کرتا قوم ظالمون کو یہ لوگ سزا اونہی ہے

أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكَةِ وَالنَّاسِ جَمِيعًا

کہ اور انہی لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سہی

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَجْعَلُونَ الْعَذَابَ لَهُمْ

ہیشہ رہینگے سچ او سکے نہ ہلکا کیا جاوینگا اونسے عذاب اور نہ وہ

يَنْظُرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ

ڈاہیل دیے جاوینگے مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی یسے اسکے

وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ

اور سبکی کی پس بخشنے والا مہربان ہے بخشنے والوں کو

كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ تَعَزَّزُوا بِالْفِرِّ كَيْ يُقْبَلَ

کافر ہوسے پیسے ایمان اپنے کے پھر زیادہ ہوسے کفر میں ہرگز نہ قبول کی جاوینگے

تَوْبَتِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُونَ إِنَّ الَّذِينَ

توبہ اونہی اور یہ لوگ وہ ہیں گناہ

كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ

کافر ہوسے اور مر گئے اور وہ کافر ہے پس ہرگز نہ قبول کیا جاوینگا کسی انہن کا

مِلَّةَ الْأَرْضِ ذَهَابًا وَلِوَأْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ

برابر پڑی زمین کے سونا اور اگر وہ بدلا دے ساتھ او سکے یہ لوگ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

واسطے اونکے ہے عذاب درد دینے والا اور بہنیں واسطے اونکے کوئی مرد دینے والا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

۴ لا یحیی الله
۸ للاندہ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو کوئی پھر جاوے گا تم میں سے دین اپنے سے

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً

پس اللہ لاوے گا اللہ ایک قوم کو کہ پیار کرتا ہے اونکو اور پیار کرتے ہیں وہ اونکو نرمی

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجَاهِدُونَ

اور مسلمانوں کے سختی کرنیوالے ہیں اور کافروں کے جہاد کریں گے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُ فُؤَادُهُمْ لَا يَقْتُلُونَ

بجراہ اللہ کے اور نہ ڈریں گے ملامت کرنے کسی ملامت کرنے والے کے

فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

بڑائی اللہ کی ہے دیتا ہے اوسکو جسکو چاہے اور اللہ کشائش والا مانتے والا

وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

۱۱ وَإِذَا سَمِعُوا

اور جو کہتا ہے نازل کرونگا میں بھی مانند او پیر کے نازل کی ہے اللہ نے

ثبوت کفر ونفاق از کلمات کفر

آیات

وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

سپارہ سورت رکوہ

۱۰ التوبة

اور بیشک کہا ہے لفظ کفر کا اور منکر ہو گئے ہیں مسلمان ہو کر

وَهُمْ يَوْمًا لَم يَبَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ

اور فکر کیا تھا جو نہ ملا اور یہ سب کرتے ہیں بل لا ادری کا کہ وہ تمہند کر دیا اونکو اللہ نے

وَرَسُولَهُ مِنْ قَضِيَّةٍ فَإِنْ يَتُوبُوا بِكَ خَيْرًا لَهُمْ

اور رسول نے اپنے نفل سے سزاگ تو توبہ کریں تو یہ سزا ہے انکے حق میں

وَإِنْ يَتُوبُوا لِعَذَابِنَا أُولَئِكَ الْأَمَّا الْخَرِ

اور اگر نہ مائین گئے تو مار دیگا اور انکو اللہ دکہہ کی مار

منافقین

قد سمعنا من المنافقون

پوری سورت دیکھو قرآن مجید

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

اور جو کوئی نہ حکم کرے ساتھ اور چیز کے کہ اتاری ہے اللہ نے پس یہ لوگ وہی ہیں

الْفَاسِقُونَ

ناسق

قول بے عمل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

ای ایمان والو کیوں کہتے ہو سوہنے سے جو نہیں کرتے

لَبْرِمَقَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

برای بیاری ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو

خاتمہ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

ہاکی بیان کرو پروردگار اپنے پروردگار عزت والی کی اس چیز سے کہ بیان کرتی ہیں

وَسَلِّمْ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَالحَمْدُ لِلّٰهِ

اور سلامتی ہے اور پیغمبروں کے اور سب تعریف واسطے اللہ

رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

پروردگار عالموں کے

اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی جسد الطهر من راسه الی قدمیه و علی بناسه
 المعطر من عمامته الی نعلیه و علی آله سیماء علی ریحانه و علی اصحابه حضور صاعلی صاحبیه و
 ختنیه و علی ارواحه و اصوله و فروعہ لا یبھا علی ابویہ و علی جمیع عشیرتہ خاصة علی
 عمیه و علی اقواله و امواله و ذاتہ و صفاتہ و حرکاتہ و سکناتہ و حیاتہ و مماتہ و سکان
 حرمیه و صل و سلم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عنصر الموجودات و اصل وجود
 جمیع المخلوقات و صل و سلم علی سیدنا و مولانا محمد اصل اصول الکلیات و غایة غایات
 الجزئیات اللهم صل علی روحک الا عظم و نوابک المکرم و صل و سلم علی ذرک اکبر
 و خلیفتک الا طهر و صل و سلم علی سیدنا و مولانا محمد روح اجساد البونین و انسان
 عیون الدارین و صل و سلم علی سیدنا و مولانا محمد منظر الوجوه و الجزئی و الکلی
 و عین حیات الوجوه السفلی و العلوی و صل علی سیدنا و مولانا محمد الناصر الذی
 عن مدحه لسان المرسلین قاصر اللهم انی استلک و اتوجه الیک نبیک محمد صلی الله
 علیه و آله و سلم بنی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربک لیقضى حاجتی اللهم فشفعه فی
 و اغفر لنا و لأبائنا و امهاتنا و ازواجنا و اصولنا و فروعنا و اصهارنا و شیوخنا و اساتذتنا
 و لاخی الاکبر الشیخ غلام محمد و ولد الاکبر الشیخ محمد اسماعیل و ولد الا صغر الشیخ غلام
 محی الدین طال الله عمرها یا غفور یا رحیم یا کریم

تاریخ طبع از جناب خواجہ سید حیدر حسن صاحب مودودی
چشتی ہاشمی المتخلص بہ آثم شاگرد رشید مرزا نوشہ اسد اللہ خان

غالب ساکن سرہند سی
ریت ذوالجلال والا کرام
۱۳۰۲

فضل یزدان با و بر تو ہر زمان
کردہ روشن شبستان بہان
صفت پیغمبر آخرا خیر زمان
اجتماع از چاہجرا گروی چنان
ہرچہ می جوید از و یاد حسان
ساختنی بجا بہ تکلیف گران
داوہ ہر جا بہر آیت نشان
تاہل گرد و بسردان و زمان
قصہ تمیہ ساختنی بچنان

مرجا اے حاجی عبد الضمہ
ز چراغ محمود اے بخت منیر
ہرچہ فرمودست رت کبر یا
فضل اہل بیت و اسحاب کبار
کہ باسانی بروار و ہر کسے
سخ امر وہنی دستران مجید
ہم رکوع و سورت و سپارہ را
زیر ہر آیت نوشتنی ترجمہ
شستی از بیم آخرا ت امین

ایضاً

بر آرد مرادات ہر دو جہان
کہ صیت سف بود اندر جہان

ان آفرین بر تو رحمت کناد
خوبی و فتنہ بگو شتم رسید

با حسنت گشتیم رطب اللسان
 کہ تا چشمہ فیضت بود در جهان
 کہ فیضان تہ آئی از وی عیان
 بگو سال تار تار مرغوب جان

چہ خوب سوز گردید روح و روان
 زہ گلشن فیض انعام حق
 زبے قصر فیض ست آیات فیض
 تو اے آثم از بہر این بیت فیض

خاتم الطبع

سبحان اللہ یہ مجموعہ ایک لاجواب مجموعہ ہے اور محبت سرچشمہ فیض جن سے ہمیشہ
 اہل دین کے سیراب ہونے کی توقع ہے۔ اسکے مؤلف نے اپنی ہیئت محنت
 اور کوشش سے ایک ایسی ضروری اور مفید کتاب جمع کر دی جو ہمیشہ دنیاویات کے
 مصطفیوں کے لیے سامان سہولت ہے کہ جب انکو اپنے مصنفات میں کسی مضمون
 کی آیت کا حوالہ دینا ہوگا اور اسی مضمون کی اور آیات کی تائید کے لیے ضرورت ہوگی
 انکو اس کتاب سے بلا محنت و تلاش مصالح ہم پہنچ جائیگا اور یہ کتنی خوبی ہے
 کہ ہر آیت کا پتہ و نشان اسکے ساتھ موجود ہے کہ چونکہ کوئی وقت نہ رہے سچ
 تو یہ ہے کہ مؤلف کی فیض رسان محنت نے بہت لوگوں کے حوصلے تصنیفات کے
 لیے بڑھا دیئے۔ علاوہ اسکے ہر عام و خاص قرآن شریف کے احکام اور مواقع حکام
 پوری پوری واقفیت ہم پہنچائی جس سے مؤلف کو دوام اجر کی امید ہے ہلکوا امید
 کہ اہل دین مؤلف کی لاجواب محنت کی کافی قدر کریں گے اور جقدر اس کتاب کی واقعی
 تعریف کہی جائے کم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا مؤلف کتاب کو جزا سے خیر دے

غلطنامہ کتاب جواہر الصدیقہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۷	۲	الْعَالَمِينَ	الْعَالَمِينَ	۲۸	۷	الْعَالَمِينَ	الْعَالَمِينَ
"	۷	عَلِيمٌ	عَلِيمٌ	"	۹	عَلِيمٌ	عَلِيمٌ
۱۸	۱	يَوْمَ يُدْعَى	يَوْمَ يُدْعَى	"	۱۰	يَوْمَ يُدْعَى	يَوْمَ يُدْعَى
"	۵	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۱۱	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
۱۹	۵	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۱۲	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
"	۱۰	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۱۳	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
۲۰	۲	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	۲۹	۲	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
"	۵	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۳	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
۲۱	۱۰	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۴	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
"	۵	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	۳۰	۲	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
"	۶	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۳	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
۲۲	۱۰	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۴	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
۲۵	۲	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۷	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
"	۳	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	۳۱	۹	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
"	۵	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۱۰	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
"	۶	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	۳۲	۲	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
۲۶	۶	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۳	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
۲۷	۱	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۵	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
"	۶	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۶	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
"	۱۰	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۷	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى
۲۸	۲	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى	"	۸	رُحْمًا يُدْعَى	رُحْمًا يُدْعَى

صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط
۳۲	انی	۳۲	انی	۳۲	انی	۳۲	انی
۵	بَرِّقُ	۵	ظَهْرُ	۵	بَرِّقُ	۵	ظَهْرُ
۵	تَعْمَلُونَ	۵	فِيهَا	۵	تَعْمَلُونَ	۵	فِيهَا
۵	الرَّحِيمِ	۵	يَا	۵	الرَّحِيمِ	۵	يَا
۵	السَّجِدِينَ	۲۳	يَا	۲۳	السَّجِدِينَ	۲۳	يَا
۵	الْعَلِيمِ	۲۵	ذَرَجَةً	۲۵	الْعَلِيمِ	۲۵	ذَرَجَةً
۳۳	حَكِيمٍ	۲۶	الَّذِينَ	۲۶	حَكِيمٍ	۲۶	الَّذِينَ
۵	بِالْمُؤْمِنِينَ	۳	يَا حَسَانَ	۳	بِالْمُؤْمِنِينَ	۳	يَا حَسَانَ
۵	يُنِ	۱	مِنَ بَعْدِ	۱	يُنِ	۱	مِنَ بَعْدِ
۵	تَفَعَّلُوا إِلَى	۲۷	وَلِيَسْبَدَ	۲۷	تَفَعَّلُوا إِلَى	۲۷	وَلِيَسْبَدَ
۳۲	النَّبِيِّينَ	۷	يَسْتَوُونَ	۷	النَّبِيِّينَ	۷	يَسْتَوُونَ
۳۵	فَمَا	۹	فَمَا	۹	فَمَا اسكودرت کرد	۹	فَمَا اسكودرت کرد
۵	النَّبِيِّ	۳۸	صِدْرَكَ	۳۸	النَّبِيِّ	۳۸	صِدْرَكَ
۵	النَّبِيِّ	۳۹	سِنَّةً	۳۹	النَّبِيِّ	۳۹	سِنَّةً
۵	النَّبِيِّ	۵۰	وَمَغَائِرَ	۵۰	النَّبِيِّ	۵۰	وَمَغَائِرَ
۵	يَا	۷	حَدُّ	۷	يَا	۷	حَدُّ
۳۶	الرُّسُلِينَ	۹	رِضْوَانًا	۹	الرُّسُلِينَ	۹	رِضْوَانًا
۵	مِضْرَ	۵	أَفْرِ	۵	مِضْرَ	۵	أَفْرِ
۳۷	إِنَّا	۵۱	الَّذِينَ	۵۱	إِنَّا	۵۱	الَّذِينَ
۵	نَذِيرًا	۷	سِبَابَهُ نَذِيرًا	۷	نَذِيرًا	۷	سِبَابَهُ نَذِيرًا
۵	يَتَوَلَّ	۳	يَتَوَلَّ	۳	يَتَوَلَّ	۳	يَتَوَلَّ
۳۰	أَخَذَ	۹	الَّذِينَ	۹	أَخَذَ	۹	الَّذِينَ
۵	بَعَثَ	۱۰	رَحِيمٍ	۱۰	بَعَثَ	۱۰	رَحِيمٍ
۳۱	أَمَّنَا	۲	مُجْرِمِينَ	۲	أَمَّنَا	۲	مُجْرِمِينَ


صفحہ	خط	ش	ج	صفحہ	خط	ش	ج
کفی	کفی	۶	۹۸	ب	ب	۶	۵۲
لِکْفِرِينَ	لِکْفِرِينَ	۹	۹۹	تَفَرَّقُوا	تَفَرَّقُوا	۶	۵۳
عَرَضًا	عَرَضًا	۱۰	۱۰۰	مِنْهُمْ	مِنْهُمْ	۱۰	۵۴
شَيْئًا	شَيْئًا	۱۱	۱۰۱	أَيُّهَا	أَيُّهَا	۱۱	۵۵
حَاسِبِينَ	حَاسِبِينَ	۱۲	۱۰۲	الْمَلَائِكَةَ	الْمَلَائِكَةَ	۱۲	۵۶
الصَّالِحِينَ	الصَّالِحِينَ	۱۳	۱۰۳	عَبِيدًا	عَبِيدًا	۱۳	۵۷
فَأُولَئِكَ	فَأُولَئِكَ	۱۴	۱۰۴	يَسَاءُ	يَسَاءُ	۱۴	۵۸
فَخَذَّ ط	فَخَذَّ ط	۱۵	۱۰۵	مَعْلُومٍ	مَعْلُومٍ	۱۵	۵۹
يُصْرَعُونَ	يُصْرَعُونَ	۱۶	۱۰۶	سَبِيلًا	سَبِيلًا	۱۶	۶۰
لَهَا ط	لَهَا ط	۱۷	۱۰۷	مُرِيدًا	مُرِيدًا	۱۷	۶۱
الضَّالُّونَ	الضَّالُّونَ	۱۸	۱۰۸	يَبْسُطُ	يَبْسُطُ	۱۸	۶۲
الْمُؤْمِنُونَ	الْمُؤْمِنُونَ	۱۹	۱۰۹	حَسْرَاتٍ	حَسْرَاتٍ	۱۹	۶۳
خَاشِعُونَ	خَاشِعُونَ	۲۰	۱۱۰	الذِّكْرَ	الذِّكْرَ	۲۰	۶۴
الْوَارِثُونَ	الْوَارِثُونَ	۲۱	۱۱۱	فَأَشْكُرِينَ	فَأَشْكُرِينَ	۲۱	۶۵
يُعْبَادِي	يُعْبَادِي	۲۲	۱۱۲	مَلَكُوتًا	مَلَكُوتًا	۲۲	۶۶
مَاءً	مَاءً	۲۳	۱۱۳	الظَّالِمِينَ	الظَّالِمِينَ	۲۳	۶۷
تَرْضَى	تَرْضَى	۲۴	۱۱۴	دَعَا اللَّهَ	دَعَا اللَّهَ	۲۴	۶۸
تَقْوَاهُ	تَقْوَاهُ	۲۵	۱۱۵	عَنِ الرُّوحِ	عَنِ الرُّوحِ	۲۵	۶۹
بِضْفَةٍ	بِضْفَةٍ	۲۶	۱۱۶	وَأَعْلَى	وَأَعْلَى	۲۶	۷۰
أَمَّنُوا أَذْكُرُوا	أَمَّنُوا أَذْكُرُوا	۲۷	۱۱۷	كُفْرُونَ	كُفْرُونَ	۲۷	۷۱
وَأَصِيدًا	وَأَصِيدًا	۲۸	۱۱۸	وَأَرِيثًا	وَأَرِيثًا	۲۸	۷۲
وَالْأَشْرَاقِ	وَالْأَشْرَاقِ	۲۹	۱۱۹	تَنْزِيلًا	تَنْزِيلًا	۲۹	۷۳
اس صغیر چند سیارہ اور سورہت رگبی	اس صغیر چند سیارہ اور سورہت رگبی	۳۰	۱۲۰	يَا	يَا	۳۰	۷۴
الْعَظِيمِ	الْعَظِيمِ	۳۱	۱۲۱	الضُّورِ	الضُّورِ	۳۱	۷۵

صفحہ	رقم	صفحہ	رقم	صفحہ	رقم	صفحہ	رقم
شفا عہ ط	۲	۱۵۵	۲	۱۵۵	۲	۱۲۵	۲
مشیہ پر ہندسہ و چاہئے	۲	۱۵۱	۲	۱۵۱	۲	۱۲۶	۲
۱۳ چاہئے	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲
تطعمہما	۱۱	۱۶۱	۱۱	۱۶۱	۱۱	۱۲۸	۱۱
فَاذَ الَّذِي	۱	۱۶۳	۱	۱۶۳	۱	۱۲۹	۱
يَلْقَاهَا	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳
الْأُمُورِ	۹	۰	۹	۰	۹	۰	۹
كَمْ	۱۰	۱۶۳	۱۰	۱۶۳	۱۰	۱۳۰	۱۰
وَمَا	۳	۱۶۰	۳	۱۶۰	۳	۱۳۱	۳
نَفَقَةٍ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
النُّصَارِ	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲
رَأَى	۰	۱۶۸	۰	۱۶۸	۰	۱۳۲	۰
كَانُوا	۲	۱۶۹	۲	۱۶۹	۲	۱۳۳	۲
خَيْرَ مَا	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰
يَطُوفُ	۵	۱۶۲	۵	۱۶۲	۵	۱۳۴	۵
مَلِكًا	۱	۱۶۳	۱	۱۶۳	۱	۱۳۵	۱
فَاذًا	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳
حَا صِرِي	۶	۰	۶	۰	۶	۰	۶
العقَابِ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مِنْ	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰
مِنْ	۱	۱۶۳	۱	۱۶۳	۱	۱۳۶	۱
إِبْرَاهِيمَ	۲	۱۶۵	۲	۱۶۵	۲	۱۳۷	۲
عِبَادِهِ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
التَّضَلُّكَ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
العظيمة	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وَتَبَتَّلْ	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳
وَأَصِلَا	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۵
الرَّحِيمِ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تَزِغْ لَنَا قُلُوبَنَا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وَيَذِلَّنْ	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲
الظَّالِمِينَ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الْمُنْزِلِينَ	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲
الَّتِي	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰
تُصَيِّحُونَ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مُتَكَبِّرُونَ	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱
رَحْمَةً	۶	۰	۶	۰	۶	۰	۶
أَرْوَاحِهِمْ	۹	۰	۹	۰	۹	۰	۹
إِنَّ اللَّهَ	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳
سِبَّارَهُ كَانِبَسَهُ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الْمُسْلِمِينَ	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۵
لِإِخْوَانِنَا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الْكِتَابِ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كَرِيمٍ	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰
أَوْلِيَّكَ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فَضْلُهُ	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳
يَعْلَمُ	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲
عِبَادَهُ	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۵
التَّضَلُّكَ	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲

صفحہ	فصل	کلمہ	شمارہ	معنی	فصل	کلمہ	شمارہ	معنی
۱۰	المُحْسِنِينَ	۲	۱۹۰	مُحْسِنُونَ	مُحْسِنُونَ	۲	۱۴۶	مُحْسِنُونَ
۱۰	يَعْمَلُونَ	۶	۰	يَا أَيُّهَا	يَا أَيُّهَا	۱۰	۰	يَا أَيُّهَا
۱۰	تَقِيًّا	۶	۱۹۱	الَّذِينَ	الَّذِينَ	۲	۱۴۷	الَّذِينَ
	أَمْوَالًا	۸	۱۹۲	شَرَّكَاتٍ	شَرَّكَاتٍ	۶	۰	شَرَّكَاتٍ
	يُضِلُّهُ	۹	۰	وَحَرَمٍ	وَحَرَمٍ	۶	۰	وَحَرَمٍ
	صَابِرًا	۳	۱۹۳	الْكُفْبَةِ	الْكُفْبَةِ	۱	۶۸	الْكُفْبَةِ
۱۰	حِسَابٍ	۶	۰	لِلنَّاسِ	لِلنَّاسِ	۶	۰	لِلنَّاسِ
۵	الْبَابِ	۶	۱۹۵	بِهِمْ	بِهِمْ	۱	۱۴۹	بِهِمْ
۱۰	يَعْمَلُونَ	۸	۱۹۷	رُسُلَنَا	رُسُلَنَا	۲	۰	رُسُلَنَا
	دَرَجَةً	۸	۱۹۹	وَالْبَادِ	وَالْبَادِ	۲	۱۶۰	وَالْبَادِ
	مِنَ الَّذِينَ	۰	۰	عَمِيقٍ	عَمِيقٍ	۹	۰	عَمِيقٍ
۲۰۰	تَنْكِحُوا	پیشانی	۲۰۰	مِن	مِن	۱	۱۸۱	مِن
	تَنْكِحُوا	۳	۲۰۱	تَقْتُمُوا	تَقْتُمُوا	۲	۰	تَقْتُمُوا
	نَجَلًا	۵	۰	مَدَّ وَرَهُمْ	مَدَّ وَرَهُمْ	۳	۰	مَدَّ وَرَهُمْ
	مَرِيئًا	۱	۲۰۲	الْعَتِيقِ	الْعَتِيقِ	۵	۰	الْعَتِيقِ
	يَا أَيُّهَا	۲	۰	مَحَلًّا	مَحَلًّا	۶	۰	مَحَلًّا
	جَلْمٌ	۳	۰	رَبِّي	رَبِّي	۱	۱۶۲	رَبِّي
	المؤمنين	۷	۲۰۳	الْبَلَوِّ	الْبَلَوِّ	۷	۱۸۳	الْبَلَوِّ
	فِي	۱۰	۲۰۴	وَنَقِصٍ	وَنَقِصٍ	۸	۱۸۴	وَنَقِصٍ
	عَصَوَاتٍ	۱	۲۰۵	الضَّالِّينَ	الضَّالِّينَ	۱۰	۰	الضَّالِّينَ
	يَتَمَاسًا	۷	۰	وَرَحْمَةً	وَرَحْمَةً	۲	۰	وَرَحْمَةً
	لَمْ	۹	۰	تَشْكُرُونَ	تَشْكُرُونَ	۲	۰	تَشْكُرُونَ
		۱۰	۰	مُتَوَكِّلِينَ	مُتَوَكِّلِينَ	۶	۰	مُتَوَكِّلِينَ
		۱۰	۰	الْأَمْوَالِ	الْأَمْوَالِ	۸	۰	الْأَمْوَالِ

صحيح	خط	٢	٣	صحيح	خط	٢	٣
الذرى	الذرى	٨	٢١٣	لکم از جعوا	لکم از جعوا	٩	٢٠٤
بنینکم	بنینکم	٣	٢١٤	صلیہ	صلیہ	١٠	٠
والموقو	والموقو	٤	٠	للموقو	للموقو	٣	٢٠٤
	بندہ سورتہ خط	١٠	٠	للموقو	للموقو	٥	٠
واکلہم	واکلہم	٠	٠	انباء	انباء	٩	٠
الشیخ	الشیخ	١	٢١٨	اخواتہن	اخواتہن	١٠	٠
یہم	یہم	٠	٠	او بنی	او بنی	٠	٠
واکلہم	واکلہم	٢	٠	اولی	اولی	١	٢٠٦
لا اجد	لا اجد	٤	٠	بار جہین	بار جہین	٣	٠
یطعمہ	یطعمہ	٨	٠	حلیہ	حلیہ	٣	٢٠٩
انہما	انہما	٨	٢١٩	حلیہ	حلیہ	٦	٠
ثمرات	ثمرات	٢	٢٢٠	ولا	بندہ بسیارہ	١٠	٠
واشہدا	واشہدا	٤	٢٢٣	ولا	ولا	٠	٠
فقیرا	فقیرا	٨	٢٢٢	رجبا	رجبا	٦	٢١٠
التسبوا	التسبوا	٣	٢٢٦	بجیۃ	بجیۃ	١٠	٠
مسطورا	مسطورا	٣	٢٢٤	علی	علی	٦	٢١١
بوا	بوا	٣	٢٢١	خطبتہ	خطبتہ	٩	٠
کل	کل	٦	٠	الائم	الائم	٣	٢١٢
فاما	فاما	٤	٠	باطنہ	باطنہ	٠	٠
امنوا	امنوا	٢	٢٢٩	بقار فون	بقار فون	٥	٠
١٩	بندہ سورتہ ٩	٥	٠	یا مر	یا مر	٦	٠
تذکرون	تذکرون	٠	٠	مما	مما	٤	٢١٣
احدا	احدا	٤	٠	تعدوا	تعدوا	٢	٢١٢
درہم	درہم	٠	٠				

۲۱۲



تقریظ از کلک گوہر سلک جناب منشی شیخ غلام محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجھ کو جیسا ہی معبود کو زیبا ہے جسکی معرفت اور بندگی اور عبادت انسان کی سعادت کا ذریعہ
اور موجب نجات و فلاح ہے۔ انسان خواہشوں کا مغلوب ہے، اس پر خواہش ایسی غالب ہے
کہ راہ حق اس پر ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے، مجال تھا کہ اسکو خود مختار چھوڑ دیا جاتا بلکہ ایک انداز و حد چاہئے
تھی تاکہ جو خواہشیں واجب الترتیب میں انکو قابل اہل سے جدا کر کے صراطِ مستقیم پر قائم کیا جاسے
پس خالق نے رہنمائی کے واسطے انبیاء علیہم السلام اور سب نبیوں کے بعد ہمارے پیغمبر احرار الزمان
جناب سلطان الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور
ان پر قرآن مجید نازل فرمایا جنکی اوامر و نواہی اور حدوں اور حکموں کو لازم پکڑنا سعادت کی راہ ہے
اسکیونبذگی کہتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نجات پائی اور جو کوئی شہ لیت کی
حدوں سے گزرا ہلاک ہوا قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ
اسوقت میرے سامنے جواہر الصدیقہ فی احکام اشرفیہ کھڑی ہے جسکی مثل آج تک کوئی کتاب دیکھنے
میں نہیں آئی جس میں کل اوامر و نواہی قرآن مجید جدا جدا ستاروں کی مثل مندرجہ میں مؤلف نے کیا
خوب انداز رکھا ہے کہ ہر حکم کی آیت مع ترجمہ اُردو نقل کر دی ہے اور ہر آیت کے ساتھ سورۃ و
سیپارہ و رکوع کا نشان دیا ہے جو حکم چاہو فوراً دیکھ لو اور جس آیت کو چاہو باسانی تمام قرآن
مجید سے نکال لو ہر مؤمن دیندار کے واسطے یہ کتاب قانون قدرت اور آئینہ خدا ناما ہے سبحان اللہ

عجب گوہر نایاب و بے بہا ہے کہ مثل اسکے شاید پہلے کسی کی نظر کیا بلکہ خیال میں بھی نہیں
گزری۔ سچ تو یہ ہے کہ مؤلف نے نہایت جانکامی کی ہے اور خالصاً اللہ تعالیٰ امتناع عام کے
لئے اپنا صرف اوقات کر کے احکام شریعت کو عوام الناس پر ظاہر و باہر کر کے خوب ثمرہ آخرت
حاصل کیا ہے۔ حاکم الحدیث شریعت النواہب + جزاک اللہ فی الدارین خیراً + مؤلف اس کتاب کے
میرے چھوٹے بھائی عزیز شیخ عبدالصمد صاحب ہیں جنکی لیاقت و اشارت اللہ تعریف کے لائق
ہے جیسا انہوں نے قومی ہمدردی کی وجہ سے رفاہ عام و افاضہ نام کے واسطے یہ کتاب تالیف
کی ہے۔ میں درگاہ آہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اسکو انکے حق میں منجملہ باقیات صالحات
کے اور اپنی رحمت کاملہ سے قبول فرمائے جو انکے رُوف الرحیم علیہ و علی آلہ و اصحابہ الصلوٰۃ و التسلیم کے اس
محنت کو انکے واسطے دنیا میں سبب راحت و عزت و درازی عمر و عقیبتی میں موجب نجات و
فلاح کرے آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الاستدعا رستی والا ایجاب من اللہ
یلوح الخط فی القرطاس و ہذا و کاتبہ ریم فی الثراب

فہرست منازل مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ زاد لہا اللہ شرفاً و تعظیماً

مقامات	کیفیت	مقامات	کیفیت
دہلی	دہلی سے بیٹی تک ریل ہے	قمران	یہاں قرنطینہ ہوتا ہے دنوں کی تعداد حسب راسے ڈاکٹر ہے۔
اجمیر			
احمد آباد	بیٹی سے جدہ تک سمندر ہے اگبوٹ کی سواری ہے اگبوٹ کے کرایہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے جیسا موقع ہو	جدہ	جدہ سے آگے خشکی کا راستہ ہے سواری اونٹ کی ہے۔ پھر یا گدھا بھی مل سکتا ہے
		جدہ	
	کم و بیش ہوتا رہتا ہے لہذا جس نرخ سے مینے دیا وہ لکھتا ہوں۔	مکہ معظمہ	جدہ سے چکر اونٹ پر دوسرے روز۔
	۲۶۔ چتری فی ٹکٹ ۱۰۰۔ تو تک	داد اللہ شرفاً و تعظیماً	اور پھر یا گدھے پر اسی روز پہنچ سکتا ہے
	۲۷۔ چتری فی ٹکٹ ۱۰۰۔ تو تک	منا	مکہ معظمہ سے تین میل ہے۔
	۲۸۔ چتری فی ٹکٹ ۱۰۰۔ تو تک	مزولفہ	منا سے تین میل اور مکہ معظمہ سے چھ میل ہے۔
	۲۹۔ چتری فی ٹکٹ ۱۰۰۔ تو تک	جبل حرقا	مزولفہ سے تین میل اور مکہ معظمہ سے نو میل ہے۔ مکہ معظمہ سے عرفات شریف تک اونٹ گھوڑا پھر گدھا ہر قسم کی سواری مل سکتی ہے
مدین	بندرگاہ ہی یہاں اگبوٹ کچھ ٹھہرا کرتا ہے		







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ